

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حضرت کی معائی زندگی

شہناز کوثر

اختر کتاب گھر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
حَضُور
مَعَايِي زندگی

شہنماز کوثر

اختر کتاب ب گھر

کتاب
مصنف

حضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشری زندگی
شہزاد کوثر

(بنتِ راجا رشید محمود)
ڈپی ایڈیٹر ماہنامہ "نعت" لاہور

پروف ریڈر
نرین اختر
مگر ان طباعت اظہر محمود

ڈپی ایڈیٹر ماہنامہ "نعت" لاہور
ایڈیٹر، نعت روزہ "اخبار عام" لاہور

کپیڈر کپوزنگ
نعت کپوزنگ سنٹر
نیو شالamar کالونی۔ ملتان روڈ۔ لاہور۔ (ہیلو: ۷۳۶۳۶۸۳)

اشاعت اول ۱۹۹۳ جولائی ۲۳
تعداد گیارہ سو

طبع حیم پرنسپلز، لاہور
قیمت ایک سورپے

ناشر
آخر محمود
آخر کتاب گھر

اظہر منزل۔ نیو شالamar کالونی۔ ملتان روڈ۔ لاہور۔ (کوڈ ۵۰۰۵۰۰) ۵۰۰۵۰۰

فون: ۷۳۶۳۶۸۳

حضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو زبردستی غریب قرار دینے والوں
کے نام

فہرست

۳۸	حلب، اٹاکیہ، بیروت، پامیرا اور جبلک کے سفر
۳۸	تجارتی میلوں منڈیوں میں شرکت
۳۳	حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جدید بازار قائم کیا
۳۳	طاائف کا سفر
۳۷	تجارت پیشہ لوگوں میں عزت پانے کا سبب
۵۰	حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کامیاب تاجر تھے
۵۵	حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک تجارت افراد
۶۷	ایک اہم شریک تجارت۔۔۔ حضرت خدیجہؓ
۷۹	کیا خدیجہؓ معاشی سارا بنیں؟
۹۰	تجارت کے اسلامی اصول اور شارعِ اسلام
۹۲	حضور صادق اور امین کیوں مشہور ہوئے
۹۸	دوسرے حضور کامل تجارت لے جاتے تھے
۱۰۱	حضور بعض چیزوں کا معاوضہ دوسروں سے کیوں دلواتے تھے
۱۰۳	غارِ حرامیں قیام کی وجہ۔۔۔ تحنثیت یا رہبانیت
۱۰۸	نزوں وحی کے وقت شریکِ حیات کی گواہی
۱۱۱	عیال کا بوجھ اٹھانے والے
۱۱۳	صلوٰۃ حمی کرنے والے
۱۱۳	سمان نوازی فرمائے والے
۱۱۵	محیبت زدوں، مسافروں اور قیمتوں کی مدد کرنے والے
۱۱۶	شعیرِ ابی طالب
۱۲۱	بھرپتِ مدینہ
۱۲۱	مواخات کی انوکھی مثال
۱۲۲	حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی او منشیان

۸	جزیرہ نماۓ عرب کے معاشی حالات
۱۳	حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء اجداد کی تجارت
۱۴	حضرت عبداللہؓ کی تجارت
۱۷	حضرت عبداللہؓ کا ترک
۱۹	سیدہ آمنہؓ نے پیغمبر تجارت میں لگائے رکھا
۲۲	حضرت زینؓ کے ساتھ تجارتی سفر
۲۵	حضرت ابو طالبؓ کے ساتھ تجارتی سفر
۲۷	دیگر تجارتی سفر
۲۸	شام کا دوسرا سفر
۲۹	شام کا تیسرا سفر
۳۰	شام کا چوتھا سفر
۳۱	یمن کے سفر
۳۲	جرش کے دو سفر
۳۳	بحرین کا سفر
۳۳	جبلہ کا سفر
۳۳	جہاش کا سفر
۳۳	نجاد اور نہران کے سفر
۳۵	فلسطین اور عمان کے سفر
۳۵	دبی کا سفر
۳۷	مصر کا سفر

- ﴿ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو سخافرماتے تھے ۱۲۵ ﴾
- ﴿ حضور ہدیے کے جواب میں ہدیہ عطا فرماتے تھے ۱۲۷ ﴾
- ﴿ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم افعام عطا فرماتے تھے ۱۳۰ ﴾
- ﴿ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم خریداری فرماتے تھے ۱۳۱ ﴾
- ﴿ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھے فروخت کیے ۱۳۶ ﴾
- ﴿ حضور علی اسلام و السلام قرضہ لیتے تھے ۱۳۷ ﴾
- ﴿ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام آزاد کرنا ۱۳۹ ﴾
- ﴿ زمین حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی ۱۴۲ ﴾
- ﴿ جانور جو حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھے ۱۴۳ ﴾
- ﴿ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غیرمت سے کیا لیتے تھے؟ ۱۵۶ ﴾
- ﴿ حضور کا بھوکارنا اس کی دلیل نہیں کہ آپؐ کے پاس کچھ نہ تھا ۱۶۰ ﴾

۱۴۰

حضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی

حضرت رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی کے بارے میں ہمارے محترم سیرت نگاروں نے یہ بات پسلے سے طے کر لی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عُرُست، غربی اور مغلوب الحالی کا شکار ثابت کرنا ہے۔ اس ”مقصدِ عظیم“ کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب کیا، آپؐ پیدا ہوئے تو بتایا کہ اس غربی کی وجہ سے کوئی دائی ان کے گھر کا رُخ نہیں کرتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ کسی نے رضاعت کے عرصے پر گفتگو کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ چونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو سعد کی خاتون کے حوالے کر دیا گیا۔ سیرت نگاروں کے رویتے سے تو یہ بھی بعید نہ ہوتا کہ دو سال دودھ پلانے کے بعد جو دو سال مزید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دائی حلیہ سعدیہؓ نے اپنے پاس رکھا، اس کے بارے میں یہ لکھ دیتے کہ یہ ایک معاہدے کا نتیجہ تھا۔ جس کے تحت دو سال دودھ پلانے کا معاوضہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین اور چار سال کی عمر میں ان کی بکیاں چراتے۔

پھر یہ کہا گیا کہ حضرت ابوطالبؓ مغلوب الحال تھے۔ جن دونوں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تھے، اس مدت کے بارے میں یہ افسانہ تراشائیا گیا کہ حضرت ابوطالبؓ کے گھر کا خرچ چلانے کے لیے حضور صلی

یمن کی تجارت نہایت قدیم ہے۔ یہاں کے سو داگر اعلیٰ درجے کی اشیا فروخت کرتے تھے۔ عدن یمن کی مشہور تجارت گاہ تھا۔ جہاں سنده، ہندوستان اور چین سے طرح طرح کے بیش قیمت اسباب آیا کرتے تھے۔ حیرہ، بحرین کی بہت بڑی تجارت گاہ تھا۔ یہاں ایران، سنده، ہندوستان اور افریقہ سے سامان آیا جایا کرتا تھا۔ صنعتی قدم زمانے میں شاہان یمن کا دارالسلطنت ہونے کی وجہ سے بہت بڑی تجارت گاہ تھا۔ فی قوہ کی مشہور تجارتی منڈی تھی۔ قطیب و کاندھ میں موتی کی تجارت ہوتی تھی۔ الی یمن نظار کے تجارتی مقام سے ہندوستان کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ حجاز میں مکہ بہت بڑی تجارت گاہ تھا۔ یہاں قریش کے بڑے بڑے تجارت رہتے تھے۔ اور یمن، شام، عراق، مصر وغیرہ ممالک سے تجارتی کارروائیاں آیا جایا کرتے تھے۔ جدہ سے الی یمن حجاز بھری تجارت کرتے تھے۔ یمن سے جدہ، مصر، صور اور افریقہ وغیرہ کے ساتھ تجارت ہوتی تھی۔ خیر میں خرمول کی تجارت ہوتی تھی۔

شام میں تدمور، علیک، دمشق وغیرہ مشہور تجارت گاہیں تھیں۔ عراق میں حیرہ اور ابلہ تجارت کے لیے مشہور تھے۔ (نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۳ مضمون "تجارت العرب قبل الاسلام" از سید شمس اللہ قادری۔ ص ۳۷۔ ۴۵) حجاز، یمن، عمان اور بحرین کے باشندوں کی تجارت بہت بڑھی ہوئی تھی۔ (بلوغ الارب فی احوال العرب (عربی) جلد اول۔ مطبوعہ بغداد۔ ص ۳۸۳) عرب بادشاہ کی قویں عمالقہ، عاد، ثمود، حمیر تجارت کرتی تھیں۔ بنی قحطان نواحی یمن میں آباد ہو گئے تھے، ان کا پیشہ بھی تجارت و زراعت تھا۔ بنی اسماعیل تجارت کی وجہ سے بہت مالدار ہو گئے تھے۔ دوستہ الجندل، بابل، ہند اور مصر میں تجارت کے لیے شاہراہ کا کام رہتا تھا، یہاں آباد بنی آدوم بھی مشہور تاجر تھے۔ ان غلدون کہتے ہیں کہ قریش کی وجہ تسبیہ ہی تجارت ہے۔ قریشیوں کی تجارت

الله علیہ وآلہ وسلم اجرت پر بکیاں چراتے تھے۔ اس بارے میں تفصیلی بحث میری کتاب "حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن" میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ سفر شام میں حضرت ابوطالبؓ کے ساتھ جانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پچانہ ضد تھی، حضرت خدیجہؓ کے مال تجارت کے ساتھ سفر کرنا مزدوری حاصل کرنے کے لیے تھا، اور حضرت خدیجہؓ نے ساتھ شادی کی وجہ سے آپؐ کے معاشی مسائل حل ہوئے۔ زیر نظر کتاب میں ان سب مزاعومات پر کسی قدر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ قریش کے دوسرے متمول لوگوں کی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کو اپنایا اور اسے عمر بھر جاری رکھا۔

جزیرہ نماۓ عرب کے معاشی حالات

جزیرہ نماۓ عرب کے ان حصوں میں جہاں منظم حکومتیں قائم تھیں مثلاً عراق، شام اور یمن، ان کے معاشی حالات قرباً" ویسے ہی تھے جیسے اس زمانے کے دیگر ممالک میں تھے۔ شام میں غذائی اجتناس ضرورت سے زیادہ پیدا ہوتی تھیں اور برآمد کی جاتی تھیں۔ یمن میں چڑیے کی دباغت ہوتی تھی، اس کے علاوہ پارچہ بانی کا کام ہوتا تھا، لویان اور گونڈ برآمد ہوتا تھا، غذائی اجتناس مقامی آبادی کے لیے کافی تھیں۔ عراق کی پیداوار بھی غالباً" مقامی آبادی کے لیے کافی ہو جاتی تھی (ماہنامہ "خاتون پاکستان" کراچی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر حصہ دوم۔ ص ۲۵)

درحقیقت عرب کے کئی شر تجارت کی منڈیوں کی حیثیت رکھتے تھے۔

مکہ کرمہ "وَادِعَهُرْ دَنِي زَرْعٌ" (ابراهیم۔ ۳۷: ۱۳) تھا۔ یہاں نہ کھتی باڑی تھی، نہ چڑاگاہ۔ نہ معدنی ذخائر تھے، نہ صنعت کی کوئی قسم۔ البتہ بیت اللہ شریف کی وجہ سے اسے ایک تقدُّس حاصل تھا۔ کعبۃ اللہ کی زیارت اور طواف کے لیے لوگ قریب اور دور سے یہاں حاضر ہوتے تھے۔ دنیا کے مختلف خطوں سے لوگ تجارتی سامان یہاں لا کر فروخت کرتے اور دوسرا سامان خریدتے تھے۔ اس طرح اسے نہایت اہم تجارتی مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔

تجارت کے بعد اہل مکہ کا دوسرا بڑا قانونی پیشہ گلہ بانی تھا۔ مگر چند چھوٹے چھوٹے پیشے بھی رواج پذیر تھے۔ مثلاً یہاں بڑھی، "لوہار"، "طبیب" و "درزی"، قصاب، پارچہ فروش، عطر فروش، تیل فروش، شراب فروش، غلہ فروش، موشی فروش وغیرہ تھے۔ (ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قیمیہ نے مکہ کے مختلف رہنے والوں کے کاروبار کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالبؑ عطر اور گیوں کا، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عثمانؓ پارچہ فروشی کا، حضرت سعدؓ بن ابی وقارؓ تیر سازی کا، حضرت زینؓ بن عوام اور حضرت عثمانؓ بن علیؓ درزی کا، حضرت عمروؓ بن العاص اور حضرت زینؓ بن عاصی قصاب کا، عقبہ بن ابی وقارؓ بڑھی کا اور حضرت خبابؓ لوہار کا کام کرتے تھے۔ ابوسفیان بن حرب تیل اور چڑا فروخت کیا کرتے تھے۔ ابو جمل کا بھائی عاصی بن ہشام اور ولید بن مغیثہ بڑھی تھے۔ امیة بن خلف پھل بیچتا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط شراب فروش تھا۔ عبد اللہ بن جعد عان جانور پالتے اور ان کے بچے فروخت کرتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد الملک "یعنی سے عطر" اکرایم حج میں فروخت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص کے والد حیوانات کے معالج تھے۔ نفرین حارث رباب پر گاتا تھا۔ -- (کتاب المعارف اردو ترجمہ اسلام اللہ صدیقی۔ مطبوعہ لاہور۔ نورانی

کے مرکز شام، یمن، جبše، فارس، مصر وغیرہ ممالک تھے۔ ابن ہشام کے نزدیک رسول کشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہاشم بن عبد مناف نے پہلے پہل یمن و شام کے سفر مقرر کیے تھے۔ ابن خلدون اس رائے کو درست نہیں مانتے (نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۳۔ ص ۸۷)

گو جزیرہ عرب میں دیگر پیشوں مثلاً کاشتکاری، صنعت و حرفت وغیرہ کا بھی دستور تھا مگر جزیرہ عرب کی رسائل اور چیل زمین نے عربوں کو تجارت کے پیشے کی طرف پھیر دیا۔ عرب کے بعض علاقوں مثلاً یثرب اور طائف اپنی زرخیزی اور کاشت کاری کے لیے مشور تھے۔ (نور محمد غفاری، پروفیسر ڈاکٹر۔ نبی کشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشری زندگی۔ ص ۲۱) عبد القدوس ہاشمی لکھتے ہیں۔ "طائف نبتا" سربراہ ہے۔ پہاڑی ناؤں کا پانی مجتمع ہو کر کھتی اور با غبانی کے لئے کچھ نہ کچھ کام آ جاتا تھا لیکن نہ اس قدر کہ دوسرے حصوں کے لیے غذائی اجناس یہاں سے میسا ہو سکیں" (خاون پاکستان۔ رسول نمبر حصہ دوم۔ مضمون "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشری زندگی" از عبد القدوس ہاشمی۔ ص ۳۵)۔ طائف کا شرچرم سازی کے لیے مشور تھا۔ وہاں دیاغت کے کارخانے اس قدر زیادہ تھے کہ آس پاس کا ماحول بدبو دوار رہتا تھا (اردو دائرة معارف اسلامیہ۔ جلد ۳۔ مقالہ "طائف") ابو الحسن بلاذری نے "فتح البلدان" میں لکھا کہ طائف میں تجارت پیشہ یہودیوں کی جماعت رہتی تھی۔ یہ لوگ یمن اور یثرب سے نکالے گئے تھے۔ (بلاذری، ابو الحسن۔ فتح البلدان۔ الازہر پرنس۔ ۱۹۳۲۔ ص ۵۶)

یثرب کسانوں کی بستی کے نام سے مشور تھا مگر وہاں یہودی ساہبو کار اور صنعت کار بھی تھے۔ مدینہ منورہ کے پیشوں کی تفصیل بخاری شریف کی کتاب البیوع میں دی گئی ہے۔

وغیرہ درآمد کیا کرتے تھے۔ (یُوسُفُ الدِّین، ڈاکٹر۔ اسلام کے معاشری نظریے۔
حصہ اول۔ مطبوعہ حیدر آباد کن۔ ۱۹۵۰۔ ص ۳۸، ۳۹)

عبدالقدوس ہاشمی لکھتے ہیں کہ عرب کے متعلق عام طور پر مشہور ہے کہ یہ لوگ غیر متدين مغلس، جھگڑا اور شراب خور و عیاش تھے۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ تکن سے واقف نہ تھے۔ ان میں سے بعض لوگ سود خوری اور نفع اندوزی کے ذریعے اچھی خاصی دولت رکھتے تھے۔ اور اس زمانے کی کوئی تکلف پندی ایسی نہ تھی جو امراء طائف اور یہودیہ میں موجود نہ تھی۔ آج بھی اگر مدینہ منورہ کے جنوب میں دولت مند یہودی این اپنی الحقائق کے محلات کا ہندور دیکھیے تو حیرت ہوتی ہے۔ کیا عالی شان حکل تھا۔ پانی کے ٹل کس طرح سارے محل میں دوڑائے گئے تھے۔ کس اہتمام کے ساتھ حماموں اور نشت گاہوں کو تعمیر کیا گیا تھا (خاتون پاکستان۔ رسول نمبر حصہ دوم۔ ص ۳۶)

حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے آباء اجداد کی تجارت

”قریش“ نضر بن کنانہ کا خطاب تھا۔ ان کی نسل میں ان کے پوتے فہر بن مالک ہی سے سلسلہ پھیلا، اس لیے یہ خطاب بھی فریکی طرف منتقل ہو گیا۔ بنو نضر تجارت پیش کرتے تھے۔ فر کے تین بیٹے تھے، ”محارب“، ”حارث“، ” غالب“ کی اولاد بہت کچھی بچھوی۔ قریش کے دسوں خانوادے (بنو ہاشم، بنو نوافل، بنو عبد الدار، بنو اسد، بنو قیم، بنو مخزوم، بنو عدعی، بنو معج اور بنو سلیم) غالب کی نسل سے تھے۔

قریش کا پیشہ تجارت تھا۔ زراعت کو وہ عار سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ ابو جمل

کتب خانہ چھاپی ضلع بیاس کا نٹھا گجرات (انڈیا) نے یہ کتاب ”سیر انبیا و صحابہ و تابعین“ کے نام سے شائع کی)

قریش مکہ موسم سرما میں بیکن اور موسم گرم میں شام کا تجارتی سفر کرتے تھے۔ قرآن پاک میں ان تجارتی سفروں کا ذکر موجود ہے۔ (قریش: ۱۰۶-۲) طبری کے مطابق ان دونوں تجارتی سفروں کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد احمد حضرت ہاشم نے کیا تھا (طبری، ابو جعفر محمد بن جریر، تاریخ۔ ص ۱۰۸۹) بحوالہ نبی کریمؐ کی معاشری زندگی۔ ص ۲۲)

ڈاکٹر نور محمد غفاری نے حسن ابراہیم حسن کی تاریخ اسلام کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان دو اہم تجارتی اسفار کے علاوہ قریش مکہ کے قافلے جزیرہ العرب کے ایک سرے بیکن سے دوسرے سرے غزہ، بیت المقدس اور دمشق تک اور بحیرہ احمر پار کر کے جبše جاتے تھے۔ جدہ کی بندرگاہ ان دونوں میں بھی جبše اور مکہ کے درمیان تجارتی واسطے کا کام کرتی تھی۔ جدہ ہی سے بھریں کے شر قلیفت تک تجارتی سامان آتا جاتا تھا (حسن ابراہیم حسن۔ تاریخ اسلام۔ جلد ۲۔ ص ۷۶) بحوالہ نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشری زندگی۔ ص ۲۲)

مکہ کے تاجر چجزا، کھالیں اور طائف کا منقی برا آمد کیا کرتے تھے۔ طائف میں بنی قیف کے لوگ ہندوستان سے ملکوائے ہوئے لوہے سے تیار ہو کے پھل، تلوار اور نیزے بنایتے تھے۔ مکہ کے تاجر بیکن، ہند اور افریقہ سے خوشبو میں، گرم مصالح جات اور جڑی بونیاں درآمد کیا کرتے تھے۔ یہ اشیا وزدن میں کم اور قیمت میں زیادہ ہوتی تھیں۔ چین سے ریشم، عدن سے قیمتی کپڑے، افریقہ سے غلام، کرانے کے سپاہی اور مزدور، شام اور مصر سے قیمتی سامان، روم کی صنعتی پیداوار، ”خصوصاً“ ریشم، روئی اور محفل کے نیسیں کپڑے، شام سے ہتھیار، انجام اور تیل اور افریقہ سے ہاتھی دانت کی مصنوعات اور سونے کی مٹی

رسیر اصحابہ۔ جلد دوم۔ مہاجرین حصہ اول۔ ص ۳۸۷) طبقات ابن سعد میں ہے، عبد اللہ بن نواف بن حارث کہتے ہیں کہ ہاشم نے قیصر سے قریش کے لیے یہ عمد لیا تھا کہ امن و امانت و حفاظت کے ساتھ سفر کر سکیں، سڑکوں اور راستوں پر اپنا مال و اسباب لے کر گزریں تو انہیں کراہی و محصول نہ دیتا پڑے۔ قیصر نے یہ اجازت نامہ لکھ دیا اور نجاشی (فرما زوائے جبھے) کو بھی لکھ بھیجا کہ قریش کو اپنے ملک میں داخل ہونے دیں (محمد بن سعد۔ طبقات ابن سعد۔ حصہ اول۔ اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اردو ترجمہ از علامہ عبد اللہ الجمادی۔ مطبوعہ کراچی۔ دوسرا ایڈیشن ۱۹۷۳۔ ص ۱۲۰)

قریش مکہ تا جر تھے، تجارت ان کے لیے اہم تھی۔ تجارت کے نقطہ نظر سے انہیں بعض یا توں کی چشم پوشی بھی کرنا پڑتی تھی۔ مثلاً جب حضرت ابوذر غفاریؓ ایمان لائے اور کعبۃ اللہ کے سامنے بیانگردیں اسلام قبول کیا تو قریش مکہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن جب انہیں کہا گیا کہ یہ قبیلہ غفار سے متعلق ہیں اور یہ قبیلہ اس راستے پر آباد ہے جس پر شام کے لیے تجارتی قالے جاتے ہیں تو قریش نے انہیں چھوڑ دیا (صحیح بخاری۔ اسلام ابی ذر رضی اللہ عنہ) جب قریش نے مسلمانوں کو حج سے روکا تو انہوں نے یہ دھمکی دی کہ ہم تمہاری شام کی تجارت روک دیں گے۔

ڈاکٹر سید سبیط حسن رضوی لکھتے ہیں۔ ”بنی ہاشم کا قبیلہ عرب میں کوئی نادر قبیلہ نہ تھا۔“ (ماہنامہ ”ماہ نو“ لاہور۔ سیرت نبیر۔ دسمبر ۱۹۸۵) مضمون ”پیغمبر اسلام کا اقتصادی نظام“) حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب نے تجارت میں جو کچھ کملایا، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی حضرت فاطمہ بنت عمرہ سے نکاح کیا تو بڑی کوہاں والی سو اوٹھیاں اور ایک سوتھے سو ناقہ میں دے دیا

مرتبہ وقت بھی زراعت پیش لوگوں کے ہاتھ سے قتل ہونے کے عار کو نہ برداشت کر سکا۔ قریش کی تجارت کا سلسلہ بہت وسیع تھا۔ ان کے تجارتی قالے ملکوں ملکوں پھر کریپوپار کرتے تھے۔

زرقانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبائیں حضرت قصی بن کلاب کو تمام قبائل قریش پر اقتدار حاصل تھا (سعید اختر۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ص ۱۱) حضرت قصی کے بیٹے عبد مناف نے تجارت کے ذریعہ یہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ لوگوں کی ناداری اور ہنگدستی دور کر دیا کرتے تھے (سلمان منصور پوری، قاضی محمد سلیمان۔ رحمۃ للعلماء صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلد دوم۔ ص ۴۳) احمد زینی دھلان لکھتے ہیں کہ ”حضرت قصی کے بعد ان کے بیٹے عبد مناف، پھران کے بیٹے جناب ہاشم، پھران کے بیٹے حضرت عبد المطلب، پھران کے بیٹے جناب ابوطالب حاجت مند حاجیوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے رہے“ (سیرت دھلانیہ۔ اردو ترجمہ از صائم چشتی۔ ص ۲۶)

حضرت ہاشم مالی تجارت لے کر شام گئے۔ واپسی پر لوٹتے ہوئے سب اونٹوں پر روٹیاں اور آٹا لاؤ لائے اور مکہ پہنچ کر دعوتِ عام کر دی (ابراہیم سیالکوٹی۔ سیرت المصطفیٰ۔ جلد اول۔ ص ۵۵ / نور بخش توکلی۔ سیرت رسول عربی۔ ص ۲۳ / سلمان منصور پوری۔ رحمۃ للعلماء۔ جلد دوم۔ ص ۶۸)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جد مکرم حضرت ہاشم بن عبد مناف بن قصی وہ پہلے سردار قریش تھے جنہوں نے ہمسایہ قوموں سے تجارتی معاملہ کیے۔ شاہ معین الدین ندوی نے اس کارناتے کو حضرت قصی سے منسوب کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔ ”قریش کی تجارت کو قصی نے بہت با اصول اور منظم کر دیا تھا۔ نجاشی شاہ جبش اور قیصر شاہ روم سے اجازت نامے حاصل کیے تھے اسکے مکہ قریش آسائی اور امن سے ان کے حدود حکومت میں اپنا تجارتی کاروبار پھیلا سکیں۔

لیکن یہ بات واضح ہے کہ انہوں نے بھی اپنے آبائی پیشہ تجارت ہی کو اختیار کیا تھا اور اسی سفر میں آپ کا انتقال ہوا۔

حضرت عبد اللہؓ کا ترکہ

محمد حسین ہیکل، سید اولاد حیدر فوک بگرامی، نور بخش توکلی، حظ الرحمان سیوبہاروی، عبد المصطفیٰ اعظمی اور دوسرے ہست سے سیرت نگار، حضرت عبد اللہؓ کے ترک کے طور پر پانچ اونٹ، بکریوں کے ایک رویڑ اور برک (حضرت امِ ایکن) کا نام لیتے ہیں (حیاتِ محمد ص ۲۰ / اسوہ الرسول۔ جلد دوم۔ ص ۳ / سیرت رسول علی۔ ص ۲۰ / نور البعرنی سیرت خیر البشر۔ ص ۲۰ / سیرت مصطفیٰ۔ ص ۲۹) ابوالاعلیٰ مودودی بھی متن میں یہی لکھتے رہے لیکن حاشیے میں لکھتے ہیں۔ ”ایک روایت یہ بھی ہے کہ ترکہ میں صرف ایک اونٹ اور ایک لوئڈی تھی۔“ (سیرت سرورِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۹۵) حالانکہ ابن قتیبه کا کہنا ہے کہ سوران کے بارے میں مجھ سے زید بن اخزم نے کہا کہ انہوں نے عبد اللہ بن داؤد سے ساختا کہ سوران صالح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد حضرت عبد اللہؓ سے میراث میں ملے تھے (کتاب المعرف۔ ص ۲۵ / اظہر محمود۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ قام رفتا۔ اختر کتاب گھر، لاہور۔ ۱۹۹۳۔ ص ۱۷) / مصباح الدین فکیل، شاہ۔ سیرت احمد بھجنی۔ جلد اول۔ ص ۵۸)

حقیقت یہ ہے کہ حضرت عبد اللہؓ نے اپنی میراث میں ایک مکان بھی چھوڑا (قاروئ، ایم ذی۔ تاریخ محمد۔ مطبوعہ لاہور۔ ۱۹۹۳۔ ص ۲۱) تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مکان میں پیدا ہوئے۔ یہ مکان کہ مظہر میں رزائے محمد یوسف کے نام سے مشہور رہا اور اس کی زیارت کی جاتی رہی۔ اس

(نظام الدین احمد جعفری۔ جنات النعم فی ذکر نبی الکریم۔ ص ۳۳) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والد حضرت عبد اللہؓ کے فدیہ کے طور پر سو اونٹ ذبح کر دیے (ابراهیم سیاکلوئی۔ سیرت المصطفیٰ۔ جلد اول۔ ص ۸۷ / شیلی نعمانی۔ سیرت النبی۔ جلد اول۔ باب ”سلسلہ نسب“) ابرہماں ان کے سو، (محمد حسین ہیکل۔ حیاتِ محمد ص ۱۱۲) دو سو، (عبد الرحمن ابن جوزی۔ الوفا بیاجوال المصطفیٰ۔ ص ۱۱۹ / معارج النبوت۔ جلد اول۔ ص ۲۷ / رضا مصری، شیخ محمد رسول اللہ۔ ص ۲۶ / ابو الحسن علی ندوی۔ نبی رحمت۔ ص ۸۳) یا چار سو اونٹ ہنکا کر لے گیا (سیرت محمدی۔ ترجمہ المواهب اللدنیہ از علامہ قطعلانی جلد اول۔ ص ۱۲۲ / عبد الحق محدث دہلوی۔ مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۱۰ / شرف النبی۔ ص ۲۲) تو حضرت عبد الملک نے انہیں واپس لا کر قربانی کے لیے وقف کر دیا (محمد میاں۔ محمد رسول اللہ۔ ص ۹۰)

حضرت عبد اللہؓ کی تجارت

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباو اجداد کا پیشہ تجارت تھا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے والد گرامی تجارت کی غرض سے شام گئے، واپسی پر پیشہ میں اپنی نہیاں میں ٹھہرے اور وہیں فوت ہوئے (حیاتِ محمد ص ۲۰ / سیرت دحلانی۔ ص ۱۳۲ / حفظ الرحمان سیوبہاروی۔ نور البعرنی سیرت خیر البشر۔ ص ۲۰ / قیم صدیقی۔ سیرہ انسانیت۔ ص ۲) قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ واپسی کے وقت مدینے میں اس لیے ٹھہرے تھے کہ اپنے باپ کے حکم کے موافق وہاں سے کھجوروں کا سودا کر لیں (رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جلد دوم۔ ص ۹۲)

اگرچہ اس وقت حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی

حکلے کا نام زقاق المولد تھا اور یہ شعب بن ہاشم میں تھا (عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، شیخ۔ مختصر سیرت الرسول۔ ص ۹، ۱۰ / سیرت احمد مجتبی۔ جلد اول۔ ص ۵۸) جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بنی سعد سے واپس آئے تو اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اپنے والد کے مکان میں رہنے لگے (علی اصغر چودھری۔ بنی اکرم کاشانہ نبوی میں۔ ص ۲۲) حضرت عبد اللہ کی میراث میں چاندی اور تکوار کا ذکر بھی ملتا ہے۔ (ابن اشیر۔ اُسد الغابہ فی معرفت الصحابة۔ جلد اول۔ ص ۱۵) مکان اور دوسری چیزوں کے علاوہ مکہ میں حضرت عبد اللہ کی خیاطی کی ایک دکان بھی تھی جہاں کپڑا بکٹا اور سلتا تھا (سیرت احمد مجتبی۔ جلد اول۔ ص ۵۸)

ترکے میں جن چیزوں کا ذکر اس طرح بکھرا ہوا ملتا ہے، ان کے علاوہ سب سے پہا امسکہ تو یہ ہے کہ حضرت عبد اللہ "جو سامانِ تجارت لے کر گئے تھے، اس کی اصل رقم کے علاوہ اس سے ہونے والے منافع کی رقمِ کمائی گئی۔ اس کا ذکر سیرت کی کتابوں میں کیوں نہیں ملتا۔ اب کچھ سیرت نگاروں نے البتہ اس طرف توجہ دی ہے۔ شاہ مصباح الدین تخلیل لکھتے ہیں کہ "سامانِ تجارت میں بہت کچھ نقد و جنس یعنی چیزاً اور سمجھو بھی آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے والد محترم نے چھوڑا جو قریش کے دستور کے مطابق تجارت میں لگایا جاتا اور اسی مناسبت سے منافع تقسیم کیا جاتا"۔ (سیرت احمد مجتبی۔ جلد اول۔ ص ۵۸) ایم ڈی فاروق لکھتے ہیں کہ "حضرت عبد اللہ کی وفات پر ان کی دولت، موسیٰ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو ورثے میں ملے۔ اس لیے آپ ابتداء ہی سے مالی لحاظ سے کسی کے محتاج نہ تھے..... آپ کے والد جناب عبد اللہ بھی تاجر تھے۔ اس لیے اپنی وفات کے بعد حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لیے معقول سرمایہ پانچ اونٹ، بکریوں کا ایک روپڑ، ایک کنیز امام ایک برکہ اور اپنا ذاتی مکان شعب بنو ہاشم میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ سب کچھ آپ کو

وراثت میں ملا..... آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے والدِ ماجد حضرت عبد اللہ تاجر تھے۔ شعب بنی ہاشم میں ان کا اپنا مکان تھا۔ ان کے پاس اونٹ بھی تھے اور بکریاں بھی۔ اور واضح رہے کہ بیرونی ملکوں کے ساتھ تجارت کے لئے کافی سرمایہ درکار ہوتا ہے۔ ان حوالوں سے یہ عیاں ہے کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنے شفیق تیا زبیر کے تجارتی سفروں میں ان کی معاونت اور تربیت سے فائدہ حاصل کیا اور آپ اپنے تیا کے ساتھ شریک تجارت رہے۔ (تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ص ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۲۵، ۲۲۶)

سیدہ آمنہؓ نے پیسہ تجارت میں لگائے رکھا

جب ہم نے "سیرت پاک" کا یہ منصوبہ شروع کیا تو میرے والدِ مکرم راجا رشید محمود (ایڈیٹر ماہنامہ "نعت" لاہور) کو ان کے کئی احباب نے مشورہ دیا کہ مُسلم باتوں کو نہ چھیڑیں، سیرت کے بنیادی منابع ہی سے استفادے پر اکتفا کریں لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ بنیادی منابع کے ذریعہ جو ایسی معلومات ہم تک پہنچی ہیں جنہیں صحیح ثابت نہیں کیا جاسکتا یا معلوم حقائق نے انہیں غلط ثابت کر دیا ہے، ان کے بارے میں کسی رو رعایت، یا منافقت یا مدانت سے کام لیے بغیر چ لکھیں۔ اور پیش نظر صرف یہ حقیقت ہو کہ عزت و حکم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جن کی عزت و توقیر کا حکم نص قرآنی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ جہاں کوئی بات ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے فروٹ رکھی گئی ہے، تحقیق و تفحیس کے ذریعے اس کی تغییر کی جائے اور اس مسئلے میں یہ سوچنے کی رحمت گوارانہ کی جائے کہ تغییر کس کے لئے کی ہو رہی ہے۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحمت کے زیر سایہ پہلی جلد میں بھی یہی را اختیار کی ہے اور ہم

ان شاء اللہ "سیرت پاک" کی چودہ یا پندرہ جملوں میں اسی صراطِ مستقیم پر گامزن رہیں گے۔

ہمارے بزرگ سیرت نگار حضرت عبد اللہؓ کے سامانِ تجارت کی بات ہی گول کر گئے لیکن ہم اس کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ مکہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے خالی ہاتھ تو نہ گئے ہوں گے، پھر وہاں سے خالی ہاتھ و اپس تو نہیں آ رہے ہوں گے۔ یہ رب سے کھجوریں خریدنا تھیں تو وہ رقم کیا ہوئی جس سے کھجوریں خریدنا تھیں؟ کھجوریں خرید لی تھیں تو وہ کہاں گئیں؟ ان سوالات کے جواب میں سیرت کے فتح کی حیثیت رکھنے والی کتابیں اگر خاموش ہیں تو کیا ضروری نہیں کہ ہم کم از کم ایک عام عقلی سطح کے آدمی ہی کی طرح قیاس کریں کہ کیا ہوا ہو گا۔

دو ہی صورتیں ہیں، یا تو سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے اس رقم کو کسی رشدہ دار تاجر کے ذریعے کاروبار میں لگا دیا جیسا کہ ایم ڈی فاروق نے "تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم" میں لکھا ہے۔ "ان کی والدہ ماجدہ ایک مددگار دور اندیش خاتون تھیں، اس لیے انہوں نے اپنے مرعوم خاوند کے ترک کی خفاظت کی اور اسے کاروبار میں لگایا۔ اور اپنے لخت جگر کے شفیق تیا زبیرؓ کے ذریعے جو ایک کامیاب تاجر تھے، اس سرمائے میں اضافہ کرتی رہیں" (تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ص ۲۱۰)

دوسری صورت یہ ہے کہ حضرت عبد اللہؓ کی بیماری کی خبر سن کر یہ رب جانے والے حضرت حارث یا حضرت زبیرؓ مدینہ سے وہ مال تجارت اور رقم بھی لے آئے ہوں جو حضرت عبد اللہؓ چھوڑ گئے تھے اور لا کر اپنے والد حضرت عبد المطلبؓ کے حوالے کر دی ہو کیونکہ حضرت عبد اللہؓ کی وفات کے بعد ان کی ہر چیز اور گھر بار کے سر پرست حضرت عبد المطلبؓ ہی ہو سکتے تھے۔

اگر پہلی بات درست ہو تو بھی جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہما کا انتقال ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور گھرانی کی ذمہ داری حضرت عبد المطلبؓ نے اپنے ذمے لے لی، (سلمان منصور پوری۔ رحمت للعالمین۔ جلد اول۔ ص ۳۱ / النبی الاطھر۔ ص ۵۳) اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملکیتی مال تجارت کے گھران وہ ٹھہرے۔ جب تک حضرت عبد المطلبؓ حیات رہے، وہ خود بھی یہ ذمہ داری نبھا سکتے تھے اور اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بھی سونپ سکتے تھے۔ لیکن اگر سیدہ آمنہؓ نے اور ان کے بعد حضرت عبد المطلبؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاروبار تجارت حضرت زبیرؓ کو سونپا ہوتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اپنے انتقال کے وقت حضرت عبد المطلبؓ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گنبد اشت کی ذمہ داری ان کو نہ سوچتے۔ جب انہوں نے اپنے آخری روز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ذمہ داری حضرت ابوطالبؓ کے سپرد کر دی (عبدالمالک بن عثمان نیشا پوری۔ شرف النبی۔ ص ۱۵ / رسالت مآب۔ ص ۲۵ / ساجد الرحمن۔ سیرت رسول۔ ص ۱۰) تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام و السلام کے مال تجارت کی گھرانی اور کاروبار کا انتظام حضرت ابوطالبؓ ہی کے سپرد تھا۔ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عبد اللہؓ کے انتقال کے بعد یہ مال حضرت عبد المطلبؓ کی زیر گھرانی رہا ہو اور اپنے آخری وقت میں انہوں نے یہ ذمہ داری حضرت ابوطالبؓ کے سپرد کر دی ہو۔

ایم ڈی فاروق نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تتمام کاروبار تجارت تیا زبیرؓ کے زیر گھرانی رہا (تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ص ۲۱۰) ابن تیہہ کی کتاب المعارف کے حاشیے میں سلام اللہ صدیقی مترجم نے، (کتابُ المعارف۔ ص ۱۰۲) شبی نعمانی کی کتاب کے حاشیے میں محمد احسان الحق

ڈی فاروق بھی لکھتے ہیں۔ "آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنے شفیق تایا زیرؓ کے تجارتی سفروں میں ان کی معیت، معاونت اور تربیت سے فائدہ حاصل کیا اور آپ اپنے تایا کے ساتھ شریک تجارت رہے۔" "تجارتی سفروں میں جناب زیرؓ ہی آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔" (تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ص ۲۰۸، ۲۱۱) (۲۰۸، ۲۱۱)

ایم ڈی فاروق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نکاح کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ "ابس وقت تک آپ شام، یعنی، بھرپور وغیرہ کے کئی تجارتی سفر کرچکے تھے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ نے دس سال کی عمر میں اپنے تایا زیرؓ کی معیت میں یعنی کا سفر کیا۔" (ایضاً۔ ص ۲۱۰)

انہوں نے عمر مبارک دس سال بتائی ہے جبکہ عام سیرت نگاه ۲۶ سال (محمد رضا مصری، شیخ۔ محمد رسول اللہ۔ ص ۴۰ / نقش۔ رسول نمبر۔ جلد ۲۔ ص ۳۷۵ / آل احمد رضوی، سید۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ص ۳۷۷) اسال (بحال حسینی۔ رسالت مآب) (روضۃ الاحباب کا اردو ترجمہ از مفتی عزیز الرحمن۔ ص ۲۸) اور ۱۹ سال (سیرت دھلانیہ۔ ص ۲۶۳، ۲۶۵) بتاتے ہیں۔ بہر حال، اس سفر کے متعلق ابو الجلال ندوی کہتے ہیں کہ یہ سفر یمن کی طرف کیا گیا تھا اور "اس سفر میں آپ کے ساتھیوں نے بہت کامیاب تجارت کی۔ آپ کے تجارتی مشاغل نے آپ کو ان بہت سی خرایوں سے واقف کرایا جو عربی اصول تجارت میں داخل تھیں۔ احادیث میں بیع و ثرا سے متعلق جو اوامر و نواعی ملتے ہیں، ان کے پس پشت آپ کے تاجر ان تجربات بھی جھانکتے نظر آتے ہیں۔" (نقش۔ رسول نمبر۔ جلد ۲۔ ص ۳۷۵)

امام عبدالرحمن ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب عمر مبارک تیرہ سال یا

نے (شبی۔ سیرت طیبہ۔ ترجمہ از میمونہ سلطان شاہ بانو۔ ص ۲۹ - ۳۱) اور ماہنامہ "محفل" لاہور کے خیرابش نمبر میں محمد اسلم نے (محفل۔ خیرابش نمبر۔ ۱۹۸۱۔ ص ۱۸۰، ۱۸۱) مضمون "حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمی زندگی کے چالیس سال" (لکھا ہے کہ جب تک حضرت زیرؓ زندہ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش انہوں نے کی اور ان کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری حضرت ابوطالبؓ کے حصے میں آئی۔ مگر سیرت دھلانیہ (سیرت دھلانیہ۔ اردو ترجمہ۔ ص ۲۲۲، ۲۲۳) کے مطابق محققین کے نزدیک یہ روایت مردود ہے کہ

زیرؓ نے پرورش کی اور ان کے بعد ابوطالبؓ کی باری آئی۔

اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروبار تجارت کے نگران حضرت زیرؓ ہوتے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضرت ابوطالبؓ کے ساتھ سفر شام پر جانے کا کوئی جواز نہیں لکھتا۔ اس سفر پر حضرت ابوطالبؓ آپؓ کو اسی لیے تو لے گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شریک تجارت تھے اور آئندہ کے لیے انہیں اپنا کام خود سنچانا تھا۔

بہر حال، اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عبداللہؓ کے ترکے میں ملنے والا سماں تجارت اور رقم تجارت میں لگائے رکھی۔ یہ ذمہ داری حضرت عبدالملکؓ نے خود سنچالی ہو یا کچھ عرصے کے لیے حضرت زیرؓ نے یا حضرت ابوطالبؓ ہی نے۔

حضرت زیرؓ کے ساتھ تجارتی سفر

محمد احسان الحق، شبی نعمانی کی کتاب "سیرت طیبہ" کے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن شعور کو پہنچنے کے بعد اپنے چچا زیرؓ کے ہمراہ تجارتی سفروں میں شریک ہوا کرتے تھے (شبی۔ سیرت طیبہ۔ ص ۳۱) ایم

گے

حضرت ابوطالبؓ کے ساتھ تجارتی سفر

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً“ بارہ سال کی ہو گی کہ ابوطالبؓ نے حسبِ دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے جانا چاہتے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوطالبؓ سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابوطالبؓ چلنے لگے تو آپ ان سے پٹ گئے۔ ابوطالبؓ نے آپ کی دل بخوبی گوارانہ کی اور ساتھ لے لیا۔ (شیلی نعمانی۔ سیرتُ النبی۔ جلد اول۔ باب ”ظہورِ قدیٰ“۔ ذیل عنوان ”سفر شام“)

یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بارہ سال (عنایت احمد کا کوروی، مفتی۔ تواریخ جیبیٰ اللہ۔ ص ۱۹ / یوسف بن اسماعیل نبہانی۔ اوازِ محمدیہ (تلخیص المواہب اللدینیہ) ص ۵۳ / شاہ ولی اللہ دہلوی۔ سیرتُ الرسول۔ ص ۲۲ / محمد رضا، شیخ۔ محمد رسول اللہ۔ ص ۱۵ / فوق بلکراہی، سید اولاد حیدر۔ اسوة الرسول۔ جلد دوم۔ ص ۵۲) یا ”سال (عبد الصمد صارم۔ محمد رسول اللہ۔ ص ۱۹) یا ۹ سال (مصطفیٰ غلامی، شیخ۔ سیرتُ الحفار۔ ص ۲۹ / اسلم بن جمیع اچبوری۔ نورات۔ ص ۱۰ / نبی عرجت۔ ص ۱۰۶) کی عزمیں حضرت ابوطالبؓ کے ساتھ شام کے تجارتی سفر ہو گئے۔ حضرت ابوطالبؓ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست و نگران تھے، آپؓ کے تجارتی امور بھی انہی کی نگرانی میں تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خود ساتھ لے گئے ہوں گے تاکہ انہیں تجارتی رموز سے بھی آگاہ کیا جائے اور تجارتی معاملات میں انہیں باقاعدہ شریک بھی کیا جائے۔ اس سلطے میں آپؓ کی محبت

اس سے ذرا متجاوز ہوئی تو اپنے بچا زبیرؓ کے ساتھ عازم سفر ہوئے۔ اتنا تھے سفر میں ایک وادی میں ایک مت اونٹ را ہروں کی راہ روکے ہوئے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بینہ گیا اور اپنے سینے کو زمین پر رکڑنے لگا اور آپؓ کو وادی سے پار چھوڑ کر آیا۔ واپسی پر پانی سے ڈوبی ہوئی ہوئی وادی ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی میں قدم رکھا تو خشک ہو گیا اور سارا قافلہ وادی سے صحیح سلامت گزر گیا (الوفا باحوال المصطفیٰ۔ اردو ترجمہ از محمد اشرف سیالوی۔ ص ۳۳۲۔ سیرت دھلانیہ میں احمد زینی دھلان نے بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ اردو ترجمہ۔ ص ۲۶۳، ۲۶۵) ڈاکٹر اسپر نجراس واقعہ کی تردید کرتا ہے (محمد رضا، شیخ۔ محمد رسول اللہ۔ ص ۲۰)

اس سفر کے بارے میں ”روضۃ الاحباب“ میں ہے کہ حضرت زبیر بن عبد الملکؓ اور برادرِ دیگر حضرت عباسؓ نے حضرت ابوطالبؓ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپؓ ہمارے ساتھ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بھی یمن کی طرف بھیج دیں۔ حضرت ابوطالبؓ نے مان لیا اور آپؓ کو یمن بھیج دیا (رسالتِ متاب۔ ص ۲۸)

اس طرح کم از کم ایک تجارتی سفر تو حضرت زبیرؓ کی ہمراہی میں ثابت ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہو۔ لیکن اس سے ایک ڈی فاروق یا احسان الحق کی تائید نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اسفار تجارت حضرت زبیرؓ کے ساتھ کیے۔ یہ بات البتہ طے ہے کہ ۱۷، ۱۸، ۱۹ سال کی عزمیں خاصے اصرار کے ساتھ حضرت زبیرؓ یا حضرت عباسؓ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانا بھی سیر کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ تجارتی سفر تھا اور لازماً اس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خود یا اگر آپؓ کم سن تھے تو حضرت زبیرؓ آپؓ کا سامان تجارت لے گئے ہوں

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کی ٹھوکر سے چشمہ جاری ہو گیا۔ انہوں نے پانی پی لیا تو زمین پہلے جیسی ہو گئی۔ (الوفا۔ ص ۶۸ / سیرت دحلانیہ۔ ص ۳۶۳)

چونکہ ہمارے سیرت نگاروں کے نزدیک آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع سے آخر تک مغلوک الحال رہے، اس لیے انہوں نے ایسے کسی سفر کے بارے میں یہ سوچا تک نہیں ہے کہ یہ تجارتی سفر بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات توضیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخفی میلاد یکھنے کے لیے تو ذی المجاز تشریف نہیں لے گئے ہوں گے۔ ہاں، عرب کے مختلف مقامات پر جو میلے لگتے تھے، ان میں لوگ سامانِ تجارت فروخت کرتے اور خریدتے تھے۔ یقیناً "سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ سفر بھی تجارتی نوعیت کا ہو گا اور حضرت ابو طالب" چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریکِ تجارت تھے، اس لیے آپ کو ساتھ لے گئے ہوں گے۔

ہو سکتا ہے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے پیارے چچا حضرت ابو طالب" کے ساتھ اور بھی کچھ تجارتی سفر کیے ہوں، جن کا ذکر کسی نے نہیں کیا۔

دیگر تجارتی سفر

علامہ شبیل نعمانی لکھتے ہیں کہ اہل مکہ تجارت کی غرض سے سفر کرنے کے عادی تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس تقریب سے متعدد سفر کیے۔ شام اور بھری کے علاوہ اور مقاماتِ تجارت میں بھی آپ کا تشریف لے جانا ثابت ہے۔ (شبیل۔ سیرت النبی۔ جلد اول۔ باب "ظہور قدسی"۔ عنوان "حدودِ سفر") میجر احسان الحق نے لکھا کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے تجارتی سفر کی تعداد ۱۵ سفر تھیں۔

آمیز پچانہ ضد کی کمائی مخفی کمائی معلوم ہوتی ہے۔ علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ میں اس حدیث کے بعض واقعات کو موضوع، جھوٹا اور گھرناہوا خیال کرتا ہوں (متدرک حاکم مع ترجیح از ذہبی۔ بحوالہ سیرت النبی۔ جلد اول۔ از شبیل۔ باب "ظہور قدسی")۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت بلاں کی شرکت کا حصہ غلطی سے اس روایت میں شامل ہو گیا ہے۔ (شبیل۔ سیرت النبی۔ جلد اول) لیکن محمد ابراہیم سیالکوٹی کا کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس سال کی عمر میں ایک اور سفر شام کیا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں حاشیے میں تفصیلی بحث کی ہے۔

شبیل نعمانی نے اس روایت کو درست نہیں مانتا۔ ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پیشی نظر مستشرقین کے اعتراضات ہیں یا ان کے نکالے ہوئے نتیجے۔ اور، وہ عام طور پر یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ یا تو واقعے کا ذکر ہی نہیں کرتے یا ذکر کرتے ہیں تو اس کی روایت یا روایات کو درست نہیں مانتے۔

ہمارے نزدیک سفر شام میں حضرت ابو طالب" کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا درست ہے، اس کی وجہ تجارت میں شرکت ہے۔ اس واقعے میں حضرت ابو بکر اور حضرت بلاں کی میعت ثابت نہیں ہوتی۔ اور، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضد پر حضرت ابو طالب" کا انسیں مجبوراً ساتھ لے جانا مخفی افسانہ ہے۔

عبد الرحمن بن جوزی اور احمد زینی دھلان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں حضرت ابو طالب" کے ساتھ وادیِ ذی المجاز میں جانے کا ذکر کیا ہے۔ یہ مقام وادی عرفات سے تین میل کے فاصلے پر ہے اور یہاں پر جامیت کے زمانے میں میلا کرتا تھا۔ اس سفر میں حضرت ابو طالب" کو پیاس لگی تو

علیہ وآلہ وسلم) اور ان عمر میں ہی حضرت ابوطالب کے ساتھ تجارتی مہموں پر

جاتے رہے اور جب بڑے ہوئے تو انہوں نے تجارت کو ہی ذریعہ معاش بنایا (ص ۱۳۶، ۱۷)

(ہفت روزہ "ہلال" راولپنڈی - ۱۲ مارچ ۱۹۷۶ - ص ۳۰۔ مضمون "رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت تاجر")

ابوالجلال ندوی بھی اس سفر کو شام کا دوسرا سفر قرار دیتے ہیں۔ جس میں حضرت ابو بکرؓ کی عمر ۱۸ سال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر میں ایم ڈی فاروق نے شام کے علاوہ کئی اور مقامات کا ذکر کرتے ہوئے سال تھی۔ لکھتے ہیں کہ یہ سفر تجارت کی غرض سے تھا اور اسی سفر نے حضرت لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کا سفر بھی کیا تھا اور خوب ابوبکرؓ کو آپؐ کا زندگی بھر کا رفق بنا دیا۔ انہوں نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ کی تھی (تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم - ص ۳۰، ۲۲۵) یہدی محمد رضوان اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک درخت کے سامنے میں تشریف فرماتھے کہ ایک انتظام اللہ شبانی نے بھی لکھا ہے کہ تجارت کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسیم گرامی پوچھا اور پھر کہا کہ یہی وہ ہیں جن علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان مقامات کے متعدد سفر کے (سیرت الرسول من کی نویں حضرت سلیمان نے دی تھی (نقش۔ رسول نمبر۔ جلد ۲ - ص ۳۷۵) القرآن۔ مطبوعہ کراچی - ۱۹۶۳ - ص ۹۰)

شام کا تیراسفر

شام کا دوسرا سفر

یہ وہ مشہور سفر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہؓ سیرت کی ہر کتاب میں حضرت ابوطالبؓ کے ساتھ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تجارت کی حیثیت سے کیا۔ اگرچہ اکثر سیرت نگار حضرات اس موقع علیہ وآلہ وسلم کے سفرِ شام کا ذکر موجود ہے۔ محمد ابراءؓ میا لکوٹی شام کے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملازمت میں دے دیتے ہیں یا اجرت دوسرے سفر کا بھی ذکر کرتے ہیں جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پر بھیج دیتے ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ کی معیت میں کیا۔ اور لکھتے ہیں کہ وہ سفر بھی تاجرانہ تھا (سیرت اس سفر کے بارے میں تفصیلی گفتگو آئینہ ہوگی۔ یہ بات البتہ طے ہے المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم - حصہ اول - ص ۱۳۶) دوسری جگہ پر "سیرا کا دوسرا کار" اس سفر کے بارے میں تمام سیرت نگار متفق ہیں۔ سفر" کے زیرِ عنوان لکھتے ہیں۔ "جب آپؐ کی عمر شریف میں سال کی ہوئی تو شام کا چوتھا سفر

آپؐ نے حضرت ابو بکرؓ کی معیت میں دوسری دفعہ سیرا کا سفر تجارت کیا۔ اس سفر کا ذکر عام اہل سیرت نے نہیں کیا۔ حاشیے میں اس پر تفصیلی بحث کرتے ہیں۔

شام کا پہلا سفر حضرت ابوطالبؓ کے ساتھ تھا، اس وقت حضور اکرم انہوں نے علامہ شبیلی کی جرح پر بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روایت کے مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک نویا بارہ سال تھی۔ پھر میں برس کی عمر ہونے کی وجہ سے اسے ناقابل اعتبار کہنا اصول محدثین کے خلاف ہے (ایضاً)۔ اس آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ نام کا سفر کیا۔ عام سیرت نگار شام کے ان دونوں سفروں کو ایک سفر سمجھتے ہیں در حضرت ابو بکرؓ کو بھی کم ہی گردانتے ہوئے اعتراض اٹھاتے ہیں۔ شام کا تیرسا

کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی تعلقات کا اور متعدد سفروں کا ذکر کیا گیا ہے (سیرت الرسول "من القرآن"۔ ص ۹۰)

عبد المصطفیٰ عظیٰ، پروفیسر اختر رای، ایم ڈی فاروق اور محمد شفیع خاں بلوچ بھی دوسرے ممالک کے علاوہ یمن میں تجارت کی غرض سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانے کا ذکر کرتے ہیں (عبد المصطفیٰ عظیٰ۔ سیرتِ مصطفیٰ۔ مطبوعہ ساہیوال۔ ۱۹۸۱۔ ص ۷۵ / ماہنامہ محدث لاہور۔ رسول مقبول نمبر۔ حصہ اول۔ ص ۱۳۰۔ مضمون "رسول مقبول" کی معاشی زندگی "از اختر رای / تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ص ۲۲۵ / ۲۱۰ / ماہنامہ "روحانی ڈائجسٹ" کراچی۔ اکتوبر ۱۹۸۳ء۔ ص ۸۵۔ مضمون "مُؤْمِنِ رسول" از محمد شفیع خاں بلوچ)

جرش کے دو سفر

محمد احسان الحق سليمانی لکھتے ہیں۔ "جرش کا سفر آپ نے تجارت کی غرض سے کیا۔" (احسان الحق سليمانی، محمد۔ رسول یمن صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطبوعہ لاہور۔ ۱۹۹۳۔ ص ۲۳۵) شبی نعمانی اسے "یمن میں" بتاتے ہیں۔ (شبی نعمانی۔ سیرت النبی۔ جلد اول۔ "حدود سفر" اور "سیرہ اصحابہ" میں اسے "یمن کا بازار" قرار دیا گیا ہے۔ (سیرہ اصحابہ۔ جلد دوم۔ مہاجرین حصہ اول۔ ص ۳۸) ڈاکٹر نور محمد غفاری نے معلومات شبی سے، انہی کے حوالے سے لی ہیں اور "جرش (یمن)" لکھا ہے۔ (نبی کرم کی معاشی زندگی۔ ص ۸۲) مولانا مودودی جرش کو یمن کا ایک مشور مقام لکھتے ہیں۔ (مودودی۔ ابوالاعلیٰ۔ سیرت سرورِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۳۳)

شبی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مرتبہ سفر یمن یا سفر جرش کا ذکر "نور البراس فی شرح ابن سید الناس" کے حوالے سے کیا ہے۔

سفر جس کا ذکر اوپر آچکا ہے اور تفصیل ذکر آگے آئے گا، وہ ہے جو آپ نے میسرہ کے ساتھ کیا۔ آر، وی "سی" باڑلے حضرت خدیجہؓ کی "ملازمت" میں آنے کے بعد شام کے ایک اور سفر کا ذکر کرتے ہیں جو آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے تجارتی قافلہ لے کر دمشق تک کیا (باڑلے۔ آر، وی سی۔ الرسول۔ اروہ ترجمہ از ڈاکٹر ایم ایس ناز۔ ص ۸۹)

یمن کے سفر

یمن (یمن کے بارے میں امام ابو عبید لکھتے ہیں کہ یہ ملک عبد رسالت میں نو ہجری میں تفتح ہوا۔ ماہنامہ "فلک و نظر" اسلام آباد۔ جون ۱۹۷۸ء۔ ص ۳۳۔ مضمون "اسلام کی معاشرتی بہبود از ڈاکٹر محمد یوسف گورایہ") کی طرف حضرت زیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سفر کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ عبد القدوس ہاشمی یمن کی طرف ایک اور سفر کا ذکر بھی کرتے ہیں جو ان کے بقول، "حضرت خدیجہ" اور قریش کے دوسرے تاجروں کے مال کے ساتھ کیا گیا۔ (خاتون پاکستان۔ رسول نمبر۔ حصہ دوم۔ ص ۳۹) یعنی ان کے نزدیک یہ سفر میسرہ اور خریثہ کی ہمراہی والے سفرِ شام کے بعد کا تھا۔ محمد کلیم ارائیں لکھتے ہیں کہ میسرہ اور خریثہ کے ساتھ سفرِ شام سے واپسی پر حساب کتاب کے فوراً بعد حضرت خدیجہؓ نے یمن کی طرف تجارتی سفر کو کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منظور فرمایا (محمد کلیم ارائیں۔ سرورِ عالم کے سفر مبارک۔ ص ۳۶) سید مریان علی رضوی حضرت ابوطالبؓ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ان کا عزیز از جان بھیجا بھی بغرضِ تجارت یمن میں جا چکا تھا (پندرہ روزنا "الایمان" لاہور۔ کیم و ۱۵۔ اپریل ۱۹۷۸ء۔ ص ۱۹۔ مضمون "سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تجارت") "سیرت الرسول" من القرآن" میں اس ملک

لکھتے ہیں۔ "حضرت خدیجہ" نے جہاں جہاں آپ کو تجارت کی غرض سے بھیجا تھا، ان میں جرش بھی ہے جو یمن میں ہے۔ حاکم نے متدرک میں لکھا ہے اور علامہ ذہبی نے بھی تصدیق کی ہے کہ جرش میں آپ دو دفعہ تشریف لے گئے۔ (شیلی۔ سیرت النبی۔ حصہ اول۔ "حدود سفر")

ڈاکٹر محمد حیدر اللہ ابن سید الناس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بی بی خدیجہ نے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دو مرتبہ جرش بھی سامان دے کر بھیجا۔ کہتے ہیں "اگر یہ جرش ہے تو وہ کے کے جنوب میں طائف سے پچھے آگے یمن کے رخ ایک اہم قلعہ بند شری مملکت تھی اور وہاں بڑا بازار لگتا تھا۔ اور اگر جرش ہے تو وہ شرق اردن میں ایک بڑا یونانی شری تھا"۔ (حیدر اللہ، ڈاکٹر محمد رسول اکرم کی سیاسی زندگی۔ ص ۶۲)

بھرین کا سفر

مسنڈ احمد بن خبل میں ہے کہ نبوت کے جس سال آپ کی خدمت میں عرب کے دور دراز مقامات سے وفوڈ آئے، ان میں بھرین سے عبدالقیس کا وفد آیا تو آپ نے بھرین کے ایک ایک مقام کا نام لے کر وہاں کا حال پوچھا۔ لوگوں نے تجب سے پوچھا کہ آپ ہمارے ملک کا حال ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے ملک کی خوب سیر کی ہے۔ (شیلی۔ سیرت النبی۔ جلد اول۔ "حدود حرم") محمد احسان الحق سلیمانی نے شیلی کے حوالے سے یہ واقعہ درج کیا ہے۔ (رسول مبین۔ ص ۲۳۶) ڈاکٹر نور محمد غفاری آخری فقرے کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔ "میں کافی عرصہ قبل تمہارے ملک میں رہ چکا ہوں یا اس کا سفر کر چکا ہوں"۔ (نبی کریم کی معاشری زندگی۔ ص ۸۳) شاہ مصین الدین ندوی کہتے ہیں۔ "بھرین میں بھی آپ کا جانا ثابت

ہے"۔ (سیرت الصحابہ۔ جلد دوم۔ مہاجرین حصہ اول۔ ص ۳۸) "سیرت الرسول" من القرآن۔ "تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم" اور "محدث" کے رسول مقبول نمبر حصہ اول میں بھی بھرین کے سفر کا ذکر موجود ہے۔

مارگلوں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیڈ سی (بھیرہ مردار) کا بھی معائنہ کیا۔ اس پر سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ "اگر بھرین تشریف لے جانے کی روایت صحیح ہے تو خلیج فارس آپ نے دیکھا ہو گا۔ بحر میت (بھیرہ مردار) کا مشاہدہ بھی ممکن ہے کیونکہ اس کا موقع عرب و شام کے درمیان میں ہے جہاں سے آپ کئی بار تجارت کے ساتھ گزرے ہوں گے"۔ (شیلی۔ سیرت النبی۔ جلد اول۔ "حدود سفر"۔ حاشیہ)

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کہتے ہیں۔ "یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس زمانے میں بھرین عرب کے پورے مشرق ساحل کا نام تھا، نہ کہ اس جزیرے کا نام بھرین کہا جاتا ہے"۔ (مودودی، ابوالاعلیٰ۔ سیرت سوری عالم۔ جلد دوم۔ ص ۱۱۳۔ حاشیہ)

جہشہ کا سفر

"سیرت حلبیہ" میں ہے کہ نجاشی کے نام حضور رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مکتب گرامی تحریر فرمایا، جس میں حضرت جعفر طیارہ کا تعارف کرایا تھا، اس کے مطالعے سے بھی اور نبوت کے پانچویں سال جہشہ کی جانب مہاجرین کو رخصت کرتے ہوئے جو الفاظ سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جہشہ اور دربار جہشہ سے ذاتی واقفیت رکھتے تھے۔ (ماہنامہ "قارآن" کراچی۔ سیرت نبہر۔ جنوری ۱۹۵۶۔ ص ۱۳۰) محمد احسان الحق سلیمانی پروفیسر اختر راهی اور سید مریان علی رضوی نے

بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہشہ کی طرف تجارتی سفر کا ذکر کیا ہے۔ (رسول مسیح۔ ص ۲۳۵ / ۲۳۵ محدث۔ رسول مقبول نمبر۔ حصہ اول۔ ص ۱۳۰ / پندرہ روزہ "الایمان" لاہور۔ کم ۱۵۔ اپریل ۱۹۷۸۔ ص ۱۶) ڈاکٹر محمد حیدر اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ (رسول اکرم کی سیاسی زندگی۔ ص ۲۳)

بعاشہ کا سفر

شیلی کہتے ہیں۔ عرب میں مختلف مقامات میں جو بازار قائم تھے، ان میں سے بعاشہ کا ذکر ابن سید الناس نے کیا ہے (شیلی۔ سیرت النبی۔ جلد اول۔ "حدود سفر") ڈاکٹر نور محمد غفاری لکھتے ہیں "بعاشہ آپ کا تشریف لے جانا بھی مذکور ہے" (نبی کریم کی معاشری زندگی۔ ص ۸۳) محمد احسان الحق سیمانی اسے تجارت کی غرض سے کیا گیا سفر نہیں مانتے۔ ان کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر تبلیغ دین کے سلسلے میں کیا تھا۔ (رسول مسیح۔ ص ۲۳۵)

بندج اور نبران کے سفر

عبدالقدوس ہاشمی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد دس سال تک خود بازار میں تجارتی لین دین کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ اس زمانے میں آپ نے غالباً "تین سفر" کیے۔ ایک یمن تک، دوسرا نفوڈ (بندج) تک اور تیسرا نبران تک..... ان سفروں کے علاوہ موسم حج میں اچھا خاصاً کاروبار ہوتا تھا۔ باقی دنوں میں کہ کے بازار میں بھی کچھ نہ کچھ تھوک فروٹی ہوا کرتی تھی، آپ اس میں حصہ لیتے تھے۔ (عبدالقدوس ہاشمی کا یہ مضمون پسلے فاران کے سیرت نمبر ۱۹۵۶ میں شائع ہوا۔ ص ۲۳۹) ہاشمی کا یہی مضمون بعد میں "خاتون پاکستان" کے روپ میں نمبر حصہ

دوم میں چھپا (ص ۲۳۹)۔ یمن کا ذکر تو پسلے آچکا ہے۔ اس کے بارے میں تو کئی سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے لیکن نفوڈ (بندج) اور نبران کی طرف حضور علیہ السلام کے تجارتی سفر کا ذکر اور کیس نہیں ملتا۔

فلسطین اور عمان کے سفر

پروفیسر اختر رائی نے اپنے مضمون "رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشری زندگی" میں لکھا ہے کہ "تجارت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد سفر کیے۔ فلسطین، شام، یمن، بحرین، عمان اور غالباً" جہشہ کا سفر بھی کیا تھا اور ان مقامات کی خوب سیر کی تھی۔ مدتوب بعد بھی ان علاقوں کے اہم شہروں کے نام، محل وقوع اور دیگر اہم تاریخی اور جغرافیائی معلومات آپ کے ذہن میں حفظ تھیں۔ (محمد۔ رسول مقبول نمبر۔ حصہ اول۔ ص ۱۳۰، ۱۳۱) یہ مہریان علی رضوی نے حضرت ابوطالبؓ کے حوالے سے لکھا کہ "آپ کا عزیز از جان بھیجا بھی بغرض تجارت فلسطین، یمن اور عمان جسے ممالک میں جا چکا تھا۔" (الایمان۔ کم ۱۵۔ اپریل ۱۹۷۸) باڑلے نے بھی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہؓ کے مال تجارت کے ساتھ میرہ کی معیت میں سفر شام سے واپسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کئی جگہوں کے علاوہ بیت المقدس کا سفر بھی کیا۔ (باڑلے۔ الرسول۔ اردو ترجمہ از ڈاکٹر ایم ایس ناز۔ ص ۸۹)

ربا کا سفر

دبا جزیرہ نماۓ عرب کی دو اہم ترین بندرگاہوں میں سے ایک تھی۔ یہاں ہر سال ایک عالمی منڈی لگتی تھی جس میں شرکت کے لئے ایران، سندھ، ہندوستان، چین اور سمندر پار کے دیگر ممالک سے تاجر آیا کرتے تھے۔ جب

بحرين فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرکی تجارتی حیثیت کے پیش نظر یہاں ایک گورنر مقرر فرمایا جس کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ تاجروں کے مکانہ تازعات کا فیصلہ بھی کرے۔ (البغدادی، محمد بن حبیب کتاب المجر، دائرة معارف العثمانیہ۔ حیدر آباد دکن۔ ۱۹۷۲۔ ص ۲۶۵ / ۲۶۵ حید اللہ، ڈاکٹر محمد۔ خطبات بہاولپور۔ مطبوعہ بہاولپور۔ ص ۲۶۶)

ڈاکٹر نور محمد غفاری لکھتے ہیں۔ ” غالباً“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے بعد حضرت خدیجہؓ اکبری کاسامان تجارت لے کر مشقی عرب بھی گئے ہوں گے۔ غالباً اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحرين جا کر دبا کے نین الاقوامی تجارتی میلہ میں شرکت کر سکیں اور زیادہ نفع کما سکیں۔ گمان ہے کہ آپؓ نے وہیں چینی تاجروں سے ملاقات کی ہو گی۔ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی۔ ص ۸۳) ڈاکٹر محمد حمید اللہ بھی کہتے ہیں کہ مشق اور دبا کے شہر آفاق میلوں وغیرہ میں بھی آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) شاید تجارتی کاروبار کے ملے میں گئے ہوں۔ (رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی۔ ص ۲۳) دبائی ہیں الاقوامی تجارتی منڈی کا نام ڈاکٹر نور محمد غفاری نے دوسری جگہ ”ربا“ لکھا ہے۔ لکھتے ہیں۔ ”ربا عرب کا اہم ترین تجارتی میلہ رجب کے اوخر میں لگتا تھا۔“ (نبی کریمؐ کی معاشی زندگی۔ ص ۳۶)

میں پسلے کہ چکی ہوں کہ سیرت نگار حضرات نے یہ بات تو پسلے سے طے کر رکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ بلکہ عرب بلکہ شاید دنیا کا غریب ترین آدمی ثابت کرنا ہے۔ اس لیے جماں کوئی تجارتی سفر سامنے آتا ہے، وہاں بھی کسی جواز کے بغیر یہ لکھنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ آپؓ کا اپنا مال تجارت نہ تھا، حضرت خدیجہؓ کا ہو گایا کسی اور کا۔ یہاں بھی ڈاکٹر نور محمد غفاری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سامان کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، حضرت

خدیجہؓ کا سامان تجارت دے کر ”ربا“ بمحاجا ہے۔
مصر کا سفر

شلی لکھتے ہیں کہ ”مُؤْنَثٌ يُورِّبُ نَجْوَةَ عِلْمٍ غَيْبِيْ“ کے مکنر ہیں اور جو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ (نَعْوَذُ بِاللَّهِ) آپؓ کے تمام معارف و معلومات سیر و سفر سے ماخوذ ہیں، قیاسات کے ذریعہ سے اس دائرہ کو اور وسعت دی ہے۔ ایک مُؤْنَثٌ نے لکھا ہے کہ آپؓ نے بھری سفر بھی کیا تھا۔..... مُؤْنَثٌ مذکور کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آپؓ مصر بھی تشریف لے گئے اور ڈیڑھی (بھیرہ مودار) کا بھی معافہ کیا۔ لیکن تاریخی و فتوحات و اتفاقات سے غالی ہیں۔ (شلی۔ سیرت النبی۔ جلد اول۔ ”حدود و سفر“) سید سلیمان ندوی نے حاشیے میں کہا کہ ”یورپیں مُؤْنَثٌ جن کی بنیاد صرف قیاس و رائے پر ہوتی ہے، اگر اس قسم کے اتفاقات بیان کریں تو کوئی تعجب نہیں ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصر جانا درحقیقت یورپ کے عدید مظالم کی محکمہ خیز روایت ہے۔ بھری سفر آپؓ نے یقیناً ”نہیں کیا۔“ (ایضاً۔ حاشیہ) ڈیڑھی (بھیرہ مودار) کے بارے میں البتہ سید سلیمان ندوی نے تسلیم کیا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحرين تشریف لے گئے تھے تو آپؓ نے اسے ضرور ملاحظہ فرمایا ہو گا۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ لکھتے ہیں کہ قیاس کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً ”کبھی جب شہ کا سفر بھی کیا تھا۔ جب شہ جانے کا سل راست تو وہی ہے جو مهاجرین اسلام نے اختیار کیا تھا کہ شعبیہ (جده) میں جہاز پر سوار ہو کر بحر احمر کے دوسرے ساحل پر جا اتریں۔ دوسرا راست یہ تھا کہ ایله (عقبہ) اور جزیرہ نماۓ سینا یا شاید غزہ سے ہو کر جماں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرداوا ہاشم مدفن بھی ہیں) مصر اور پھر وہاں سے دریائے نیل کے کنارے

کنارے جبکہ جائیں۔ دریا کے بہاؤ کی سولت کے باعث جبکہ سے مصر کشی میں آنا بھی ممکن ہے۔ اگر یہ قیاس و استنباط بے جانہ سمجھا جائے تو آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بھری سفر کا بھی اس طرح امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ (رسولِ کریمؐ کی سیاسی زندگی۔ ص ۴۳، ۴۴)

حلب، انطاکیہ، بیروت، پامیرا اور بعلک کے سفر

آر، وی، سی پاؤ لے "دی میسنجر" میں لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہؓ کی "ملازمت" میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو سال تک کافی ممالک و امصار کا سفر کیا۔ آپؐ تجارتی قافلے کے روشنق، حلب، انطاکیہ، بیت المقدس، بیروت، پامیرا اور بعلک تک تشریف لے گئے۔ رفتہ آپؐ کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی گئیں۔ (پاؤ لے۔ الرسول۔ ص ۸۹) دمشق اور بیت المقدس کے علاوہ دوسرے مقامات کا ذکر کسی دوسرے یہود نگار نہ نہیں کیا۔ اس لئے ممکن ہے، شبی نعمانی اور سید سلیمان ندوی کے بقول، یہ پورپ کے ان موئین خیں کی اختراع ہی ہو۔

تجارتی میلوں میں شرکت

یعقوبی کہتے ہیں کہ عرب کے تجارتی میلے دس مقامات پر منعقد ہوتے تھے۔ ان میں دو مرتہ الجندل (یہ مقام شام، ججاز اور عراق کے مابین واقع ہے) مثتر (حضرموت) صحار (حضرموت) دبا، شر، عدن، صنعا (یمن)، ربيحه (حضرموت) عکاظ (عرفات)، زوالجاز، بنہ، بصرہ وغیرہ مقامات پر میلے منعقد ہوتے تھے۔ (محمد حفظ الرحمن۔ اسلام کا اقتصادی نظام۔ مطبوعہ دہلی۔ ۱۹۵۹۔ ص ۲۵۳)

دولتہ الجندل کا تجارتی میلہ کیم ریج لاول کو شروع ہوتا اور دو ہفتے

جاری رہتا تھا۔ مشتر (ملک بحرین کا مشہور قلعہ) کا میلہ جہادی الاول میں ہوتا۔ (سید شمس اللہ قادری جہادی الآخری میں لکھتے ہیں۔ نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۳۔ ص ۲۶) صحار کی منڈی کیم سے ۵ رجب تک لگتی تھی۔ دبایا تجارتی میلا رجب کے آخری دنوں میں لگتا تھا۔ شر (مرو) کا وسط شعبان میں اور صنعا کا میلا رمضان کے آخری نصف میں منعقد ہوتا تھا۔ ربيحه (یعقوبی نے اس کا نام الراہیہ لکھا ہے) (نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۳۔ ص ۲۷) عکاظ اور زوالجاز کے تجارتی میلے زوالجاز کے پہلے عشرے میں لگتے تھے۔ سید شمس اللہ قادری نے "ضيادة الطرب" مطبوعہ بیروت کے حوالے سے لکھا ہے کہ عکاظ کا بازار عرب کے تمام بازاروں سے بڑا اور مشہور تھا۔ اس کا افتتاح ذی قعده کی پہلی تاریخ کو ہوتا تھا اور کامل ایک ماہ میں روز تک کھلا رہتا تھا۔ (سید شمس اللہ قادری نے "ضيادة الطرب" مطبوعہ بیروت کے حوالے سے لکھا ہے کہ عکاظ کا بازار عرب کے تمام بازاروں سے بڑا اور مشہور تھا۔ اس کا افتتاح ذی قعده کی پہلی تاریخ کو ہوتا تھا اور کامل ایک ماہ میں روز تک کھلا رہتا تھا۔ نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۳۔ ص ۲۷) یہاں یا خیر کی تجارتی منڈی دس محرم کو لگتی تھی۔ (یوسف الدین، ڈاکٹر۔ اسلام کے معماشی نظریے۔ ص ۲۷، ۲۵) جباشہ تماہ میں ہے، کے کے جنوب میں چھ دن کے راستے پر یہاں رجب میں تین دن کا میلا لگتا تھا۔ (رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی۔ ص ۲۱) سید شمس اللہ قادری ان کے علاوہ سوق بھر (ارض حیرمیں و ریچ الثاني سے شروع ہوتا تھا) سوق عمان (جهادی الاولی کے آخر ایام میں کھولا جاتا تھا) سوق جباشہ (کہہ سے یمن کو جائیں تو راستے میں بارق فتوتا واقع ہے، وہاں یہ بازار ایک بار موسیم حج میں اور دوسرا رجب میں ہوتا تھا) کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ (نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۳۔ ص ۲۶)

"فتح الباری" میں ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں جو بازار قائم تھے،

مشائعاً عکاظ، ذوالجذ، حباشہ، — اسلام کے بعد بھی ان کی رونق تقویاً
ایک صدی تک قائم رہی۔ (فتح الباری۔ جلد ۳۔ ص ۲۷۳، ۲۷۴۔ بحوالہ میری)
الصحابہ۔ جلد چھم از عبد السلام ندوی۔ ص ۲۶۲، ۲۶۳)

ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تجارتی منڈیوں یا میلوں
یا بازاروں میں سے کہاں کہاں تشریف لے گئے، اس کی تفصیلات دستیاب نہیں
ہیں۔ البتہ عکاظ اور ذوالجذ کے تجارتی میلوں میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
شوہیدت کا ذکر ملتا ہے۔ ایک بار تو آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بچپن میں
اپنے پچھا حضرت ابو طالبؑ کے ساتھ ذوالجذ گئے تھے، اس کا ذکر "حضرت
ابو طالبؑ کے ساتھ تجارتی سفر" کے تحت کیا جا چکا ہے۔ (الوفا باموال المصطفی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ص ۶۸ / سیرت دحلانی۔ ص ۲۶۳ / شہزاد کوثر۔ حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ اختر کتاب گھر لاہور۔ ص ۱۳۵)

یہ گمان کیسے کیا جاسکتا ہے کہ بچپن میں بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کسی میلے میں شرکت، میلا دیکھنے کے شوق میں فرمائیں۔ جبکہ یہ میلا تجارتی
منڈی کی حیثیت رکھتا ہو اور پچھا جو ساتھ جائز ہوں، وہ بھی تاجر ہوں اور
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارتی مال بھی اپنے اپنی بچا جان کے پاس ہو۔
اس لیے اس امر میں کچھ مشک نہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ
سفر بھی تجارتی سفر ہی کی حیثیت رکھتے تھے۔

ذوالجذ کا دوسرا سفر جس کا ذکر ملتا ہے، اعلانِ ثبوت کے بعد کا ہے۔
مسند احمد اور مجمع طبرانی میں، نیز اصحاب فی تمسیر الصحابة میں ہے کہ حضور نبی کریم
علیہ الصلوٰۃ والسلیم پازار عکاظ اور ذی الجاذ میں لوگوں کو توحید کی تبلیغ فرماتے
تھے اور آپؑ کا پچھا ابو لب پیچھے پیچھے یہ کہتا پھر تھا کہ یہ شخص (نفوذ باللہ) بے
دین اور جھوٹا ہے۔ (اوریں کاندھلوی، محمد۔ سیرت المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

جلد اول۔ ص ۹۷۱ / کلیم ارائیں، محمد۔ سرویر عالم کے سفر مبارک۔ ص ۶، ۷)
ابن اشتر نے حضرت ربیعہ بن عباد کا روایت کردہ محوالہ بالا واقعہ لکھا
ہے لیکن لکھا ہے کہ یہ واقعہ عکاظ کے بازار میں پیش آیا۔ (اسُد الغائب فی
معرفت الصحابة۔ جلد سوم۔ ص ۲۳۵) طارق بن عبد اللہ الحاربیؓ نے یہ واقعہ
بازار ذی الجاذ سے متعلق بیان کیا ہے۔ (اوریں کاندھلوی، محمد۔ سیرت المصطفی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جلد اول۔ ص ۲۰۳) ابن اسحاق نے کہا ہے کہ یونس نے
یزید بن زیاد کی وساطت سے ابوالجدعی سے اور اس نے سامع بن شداد کے
حوالے سے طارق بن عبد اللہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ (نقوش۔ رسول نمبر
جلد ۱۱۔ ص ۲۲۹۔ "سیرت ابن اسحاق") محمد کلیم ارائیں نے ان تجارتی منڈیوں
کے اسفار کے متعلق لکھا ہے "سرویر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی سفر
مبارک جو آپؑ نے عکاظ، ذوالجذ، سوچ جباشہ اور ذوالجاذ کے سالانہ اجتماعات
کے موقع پر ملے کیے تھے، ان کی تفصیلات کو شش کے باوجود نہ مل سکیں"۔
(سرویر عالم کے سفر مبارک۔ ص ۶)

پہلے کہا جا چکا ہے کہ مشتریوں میں واقع تھا، یہاں جمادی الاولی میں
تجارتی منڈی لگتی تھی۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم مشتری کے شہر، آفاق میں میں بھی تجارتی کاروبار کے سطح میں گئے ہوں
گے۔ (رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی۔ ص ۲۳)

ڈاکٹر محمد حمید اللہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جباشہ کے مقام پر جو یمن کے رخ
کاروانی راستے میں ایک مشہور مقام تھا، رجب میں تین دن کا میلا لگتا تھا۔ یہ
فلسطین کے مقابلے میں قریب بھی تھا اور سل الوصول بھی۔ حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم قریش کے ایک اور شخص کے ہمراہ بی بی خدیجہؓ کے کنہے پر
تجارت کے لیے یہاں بھی گئے۔ (رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی۔ ص ۲۶)

کتابوں میں ہے کہ قس بن ساعدہ ایام جاہلیت میں لوگوں کو اپنے خطبات میں نبی آخر الزمان (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے تشریف لانے کی خوشخبری دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں اس وقت تک زندہ رہا تو سب سے پہلے ان کی دعوت پر بلیک کہوں گے۔ جب بکرین واکل کا وفد مدینہ طیبہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قس بن ساعدہ کی نسبت دریافت فرمایا۔ معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اس پر سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے انھیں سخ اونٹ پر ایسی حالت میں دیکھا کہ سُوقِ عکاظ میں وہ اتنی قوم کو خطاب کر رہے ہیں۔ (امیر الدین، الحجج۔ سیرت طیبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشائی زندگی۔ مطبوعہ ملان۔ ص ۲۵)

اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانِ نبوت سے پہلے بھی عکاظ تشریف لے جاتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ میلا دیکھنے نہیں جاتے تھے۔ اس لیے یہ تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ یہ تجاری سفر تھے۔

ہم گزشتہ صفحات میں "حضرت زیبر" کے ساتھ تجاری سفر، "حضرت ابوطالب" کے ساتھ تجاری سفر اور "دیگر تجاری سفر" کے تحت ثابت کر چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ سفر تجاری مقاصد کے لیے کیے تھے۔ یہ سفر دور دراز کے بھی تھے۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ قریب کی تجاری منڈیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے جاتے ہوں اور وہاں تشریف لے جانے کا ایک مقصد تجارت نہ ہو۔ بچپن میں اور عالم شباب میں سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو ایسے سفر کیے ہوں گے، ان کا مقصد کھلیل تماشا دیکھنا تو ہو نہیں سکتا۔ جو سفر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اعلانِ نبوت کے بعد کیے، انھیں سیرت نگار تبلیغی سفر قرار دیتے ہیں، تجاری سفر نہیں مانتے۔ لیکن

معاملہ یہ ہے کہ پیشتر سیرت نگار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب، عُرُت زدہ اور مغلوقُ الحال ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے نظر آتے ہیں، اس لیے وہ تجارتی سفر کیے مانتے۔ جعاشہ کے سفر کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ محمد احسان الحق سیمانی اسے تجارتی نہیں، تبلیغی سفر قرار دیتے ہیں۔ (رسول میں۔ ص ۲۳۵)

میرے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر تبلیغی سفر، تجارتی سفر بھی ہے کیونکہ ایک ایسا شخص جو عرب کے مشہور تاجر خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اس کے باپ دادا تاجر ہوں، اس کا سرپرست چچا تاجر ہو، وہ خود تجارتی کرتا ہو، ۔۔۔۔۔ وہ اگر کسی تجارتی منڈی میں جائے اور تجارت شد کرے تو اس منڈی میں آئے ہوئے تمام تاجروں کی نظر میں اس کی بھی ہو جائے گی، کوئی بھی اسے عنزت کی نگاہ سے نہ دیکھے گا، پھر وہاں اس کا تبلیغ کرنا کیسے موثر ہو سکے ہے۔ اور یہ بات ہم جیسے عام لوگ بھی سمجھتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانتے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تجارتی منڈیوں میں سامانِ تجارت لے جاتے ہوں گے، وہاں سامان فروخت فرماتے ہوں گے، سامان خرید فرماتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اس تجارتی منڈی کے ایک اہم تاجر کی حیثیت سے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوں گے۔ اگر ایسا نہ ہو تا تو تاجر بھی اور میلے تھیلے دیکھنے کے شوقین بھی کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کرتے دیکھ کر برداشت نہ کرتے اور انھیں اس سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، جتنا زخمی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو طائف والوں نے کیا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس تجارتی میلے میں تبلیغ کی ہے، اس میں کسی نے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر آوازہ نہ کیا، کوئی ایسی بات اشارہ تا "بھی، کسی کتاب، سیرت میں نہیں ملتی۔ اس سے واضح ہوتا ہے

کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسی تجارتی منڈیوں یا میلوں میں جیل
القدر تاجر ہوتا ہی ان کی تبلیغ میں کسی کے رکاوٹ نہ بننے کا سبب بنا۔ اور یہ سفر
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی سفر بھی تھے۔

(صرف ایک واقعہ ایسا ملتا ہے جس میں ابواب محب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
پیچھا کرتا تھا اور آپؐ کو پر اجلا کرتا تھا لیکن اس میں بھی کوئی شخص ایسا نظر نہیں
آتا جو ابواب محب کا ساتھ دیتا ہو)

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جدید بازار قائم کیا

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے ساتھ وابستگی اور
دیپسی کا یہ عالم تھا کہ آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف معروف تجارتی
منڈیوں میں تجارتی مقاصد کے تحت تشریف لے جاتے تھے اور مال اسباب کی
خرید و فروخت فرماتے تھے۔ بلکہ ”فتح البلدان“ میں ہے کہ خود حضور رسولؐ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک جدید بازار قائم کیا جس میں کوئی
تجارتی محصول نہیں لیا جاتا تھا۔ (فتح البلدان۔ ص ۲۱۔ بحوالہ رسیر الصحابة۔ جلد
چشم۔ اسوہ صحابہ۔ حصہ اول از عبد السلام ندوی۔ ص ۳۶۲)

طائف کاسف

ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کا سفر وہ
واحد سفر ہے جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تبلیغ کے نتیجے میں کفار
طائف نے آپؐ کو زخمی کیا اور تکلیفیں پہنچائیں۔ کیا یہ کہا جاسکے گا کہ یہ سفر
محض تبلیغی تھا، اس کا تجارت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کا تجزیہ کر لیتے

ہیں۔

عام طور پر ہمارے محترم سیرت نگار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
سفر طائف کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ آپؐ وہاں تشریف لے گئے، توحید کی تبلیغ کی،
وہاں کے کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دیں اور آپؐ واپس
تشریف لے آئے۔ سید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں۔ ”جب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لائے تو سب سے پہلے تیفعت کے سرداروں
اور ذمہ دار لوگوں سے ملنے تشریف لے گئے، اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کو دین
حق کی دعوت دی، لیکن آپؐ کو بست برا اور سخت جواب ملا۔ انہوں نے آپؐ کا
نداق بھی اڑایا اور شر کے اوپاش لوگوں اور غلاموں کو آپؐ کے ساتھ پر ماور
کر دیا۔ یہ لوگ آپؐ کو گالیاں دیتے، شور چاٹتے اور آپؐ پر پتھر پھینکتے۔ انہوں
نے راستے کے دونوں طرف اپنے آدمی کھڑے کر دیے۔ آپؐ ایک قدم بھی
اتھاتے تو کسی طرف سے پتھر آپؐ پر پھینکا جاتا تھا کہ آپؐ کے دو قوں پیروزخوں
سے لولہمان ہو گئے۔ (ابوالحسن علی ندوی، سید۔ نبی رحمت۔ ص ۱۳۵)

محمد حسین بیکل لکھتے ہیں۔ ”طائف میں تبلیغ کے لیے تشریف لائے اور
شر کے سب سے زیادہ مقدار قبیلہ میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کی۔ لیکن ان
لوگوں کا ستارہ ابھی گہن میں تھا، انہوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ طائیوں نے
آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر شر کے غنڈوں کو ابھار دیا۔ جنہوں نے
اول فول بکنے کے ساتھ دل کھول کر سنک باری کے جو ہر دکھائے۔“ (محمد حسین
بیکل۔ حیاتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ از ابو سعید امام خاں نوشروی۔ ص
۲۲۰)

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
طائف آتے ہی بنو تیفعت کے سرداروں کو تبلیغ نہیں کی۔ ملا معین واعظ کا شفی

کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں دس روز رہے۔ (معین واعظ کاظمی، ملا۔ معارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۳۲۹) شیخ عبدالحق محدث نبلوی تحریر فرماتے ہیں ”مواہب میں ہے‘ طائف میں دس دن رہے‘ روضۃ الاحباب میں ہے‘ ایک ماہ رہے“۔ (عبدالحق محدث نبلوی، شیخ۔ مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۸۷) میں نے امام قسطلانی کی ”مواہب اللدنیہ“ کا ترجمہ دیکھا تو اس میں ہے ”آنحضرت صلم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے طائف میں ایک مہینہ اقامت کی“۔ (قسطلانی، امام۔ سیرت محمدیہ ترجمہ مواہب اللدنیہ از عبد الجبار آصفی نظایی۔ ص ۲۵) خود شیخ نے بھی لکھا ہے ”ایک ماہ تھیف میں رہے“۔ (مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۸۰)

ابوالحسن علی ندوی طائف کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ”طائف کا شرکی اہمیت، آبادی کے پھیلاؤ اور خوش حالی و فارغ البالی میں مکد کے بعد دوسرے نمبر پر تھا.... اہل طائف جائیداد اور زمینوں کے مالک تھے۔ ان کے پاس بڑے بڑے باغات اور مزرعے تھے۔“ (نبی رحمت۔ ص ۱۳۲) طبری کہتے ہیں، مکد کے تاجر چڑا، کھالیں اور طائف کا منقی برآمد کیا کرتے تھے۔ (نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشری زندگی۔ ص ۲۵) ڈاکٹر نور محمد غفاری کے بقول طائف کا مشور قبیلہ تھیف جو تجارتی بازاروں میں اپنی شرکت رکھتا تھا، وہ بھی دوسرے بقابل بلکہ حکومت وقت سے تجارتی قرضے لیتا اور ان پر تجارتی سودو دتا تھا۔ (ایضاً ص ۳۹) ”اردو دائرہ معارفِ اسلامیہ“ میں ہے کہ طائف کا شرکی چرم سازی کے لیے مشہور تھا۔ (اردو دائرہ معارفِ اسلامیہ۔ جلد ۳۔ مقالہ ”طائف“) طائف میں سنار بھی آباد تھے۔ (نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشری زندگی۔ ص ۵۲)

اہل مکد کے ساتھ طائف والوں کے تجارتی روابط اب تک قائم ہیں۔

مولانا محمد ابراہیم سیالکوٹی ۱۳۲۱ھ میں حج کو گئے تو ۹۸ روز مکہ شریف میں رہے۔ لکھتے ہیں : ”اس عرصہ میں دیکھا رہا کہ مکہ شریف میں طائف کے تازہ چھلوں اور سبزیوں کی تانت بندھی رہتی ہے جو اونٹوں پر لے ہوئے ہر روز تازہ آتے رہتے ہیں“۔ (ابراہیم سیالکوٹی۔ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلد دوم۔ ص ۳۲۸۔ حاشیہ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاندان کے لوگ اور قبیلہ بنو ہاشم کے کفار و مسلمان، سب شیعہ ابی طالب میں تین سال محصور رہے۔ اس دوران میں کفار کے معاشرتی مقاطعے کی وجہ سے تجارت نہ ہو سکی تھی اور جمع پوچھی سب محصورین کی گزاران پر خرچ ہوتی رہی، اس لیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بعد طائف کا رخ کیا۔ طائف ایک تجارتی شرکت، ان کے اہل مکد کے ساتھ تجارتی روابط تھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام وہاں ایک ماہ رہے اور حسب روایت تجارتی معاملے کرتے رہے یا خرید و فروخت میں مصروف رہے۔ کیونکہ ایک ماہ کے وہاں کے قیام کا اور کوئی جواز نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے تو کفار طائف تنخ پانہ ہوئے ہوں اور ایک مینے کے بعد انھیں غصہ آگیا ہو۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک ماہ تک ان کی دعوئیں اڑاتے رہے ہوں اور پھر انہوں نے تبلیغ شروع کی ہو۔ امکان یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک اہل طائف کے ساتھ تجارتی روابط رکھے اور دوسرے مقامات کی طرح یہاں بھی اس کام سے فارغ ہو کر جب تبلیغ شروع کی تو کفار کا جو شہر جمالت رنگ لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی تک کر دیا گیا۔

تجارت پیشہ لوگوں میں عزت پانے کا سبب

شروع میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ قریش تجارت پیشہ تھے۔ ”خاندان قریش کے جد امجد قصیٰ نے تجارت کو دور دراز تک پھیلایا۔ قیصر روم اور شاہ نجاشی سے قصیٰ کے تجارتی روابط تھے۔ یمن اور باز نظینی سلطنت کے زیر اثر علاقوں میں بے روک ٹوک تجارت کی غرض سے ان بادشاہوں سے پروائے حاصل کیے۔ ابن حبیب کی روایت کے مطابق قصیٰ کے چار بیٹے تھے اور ان میں سے تین تجارتی سفروں میں فوت ہوئے۔“ (”محدث“ لاہور۔ رسول مقبول نمبر۔ حصہ اول۔ ص ۲۸، ۲۹) مضمون ”رسول مقبول“ کی معاشی زندگی“ از اختر راہیں)

مکہ کی زمین اگرچہ پیداوار کے قابل نہیں تھی مگر تجارتی کاروبار کے لیے نہایت موزوں تھی۔ یہاں شرق و مغرب کے ڈائٹے ملتے تھے۔ ایران و عراق، یمن، شام اور افریقہ کے تجارتی تعلقات کی درمیانی کڑی بھی شرحتا۔ قریش اس قدر تی نعمت کو پہچانتے تھے اور جہاں تک ان کی گنجائش تھی، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے.... گرمیوں میں مکہ والوں کے تجارتی قافلے شام اور انقرہ جاتے تھے۔ جہاں اس زمانہ میں محض ہوتی تھی۔ خونگوار موسم، صحت بخش آب و ہوا کا لطف بھی اٹھاتے اور تجارت بھی کرتے۔ اور سردیوں میں یہ قافلے جب شے اور یمن میں جاتے تھے۔ عرب میں قریش کی عظمت کا ایک بڑا سبب یہ تجارتی اقتدار بھی تھا۔ (محمد میاں، سید۔ سیرت مبارکہ محمد رسول اللہ قرآن اور تاریخ کے آئینے میں۔ ص ۱۸۶)

تجارت بیشہ سے معاشرے کا باعزم پیشہ رہا ہے۔ تجارت پیشہ لوگ اسی شخص کو عنزت و حکم کا مستحق سمجھ سکتے ہیں جو تجارت ہی سے وابستہ ہو۔ پھر اگر وہ شخص تاجر باپ دادا کی اولاد ہو اور خود تجارت نہ کرتا ہو تو کسی طرح

تجارت کی نظرؤں میں عزت و توقیر کا مستحق نہیں ٹھہرتا۔ جس طرح ہمارے محترم سیرت نگار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزدوری کرتے ہیں، اجرت پر کبکیاں چڑھاتے ہیں، اور انھیں غریب اور بے زر و مال ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اگر واقعی وہ چے ہوں تو مکہ کے تجارت پیشہ قریش حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اس حدیث سے ترس تو کھا سکتے تھے کہ تاجر آباد اجداد کی اولاد غریب ہو گئی ہے، ان کی حکمیت بھی نہ کرتے۔

پھر آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے تجارت پیشہ قریش کا صادق اور امین کہنا اس کے سوا اور کوئی معنی ہی نہیں رکھتا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تجارت میں صداقت کے علمبردار تھے اور کسی سودے میں، لین دین کے کسی معاملے میں، خرید و فروخت کے کسی موقع پر بچ بولنے سے نہ بچپناتے تھے۔ ان تجارت قریش کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنا بھی اسی حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت میں نامور تھے۔ پھر کبھی کوئی امیر کسی غریب کے پاس امانتیں نہیں رکھوا سکتا۔ ”صادق اور امین“ کے عنوان کے تحت اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہو گی۔ فی الحال یہ کہنا مطلوب ہے کہ تجارت پیشہ لوگوں کی نظرؤں میں وہ آدمی کسی طرح عزت نہیں پا سکتا جس کے آباد اجداد تاجر اور متول لوگ ہوں اور وہ خود عزت زدہ بھی ہو اور تجارت کے بجائے مزدوری پر گزارا کرتا ہو۔

پھر، آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشتر رفقاء پیشتر صحابہ بھی تجارت کے پیشے کو اپنانے ہوئے تھے، اسلام لانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوفؓ کی تجارت کا ذکر صحیح بخاری میں ہے۔ (بخاری۔ کتاب الحیوں۔ باب الخروج فی التجارہ۔ باب کسب الرجل و عملہ بیدہ۔ باب قول اللہ تبارک و تعالیٰ فاذ

انتصیت الصلوٰۃ) حضرت ابو بکر صدیقؓ کی تجارت کا ذکر ابن ماجہ نے کیا ہے۔ (بُنْنَ ابْنَ ماجِد۔ کتاب الادب۔ باب الزراج) حضرت جعفرؑ کی تجارت کا حالہ ابو داؤد میں ملتا ہے (بُنْنَ ابْوَداؤد۔ کتاب الجماد۔ باب الاتبکار فی الف) حضرت ربیعہ بن حارث کے ذکر میں ان کی تجارت کے بارے میں ابن اشیر نے لکھا ہے۔ (اسد الغابہ فی معرفت الصحابة۔ جلد ۳ - ص ۲۲) حضرت عطاءؓ و تبّی کی بیرون ملک تجارت کا تذکرہ امام مسلم نے کیا ہے۔ (صحیح مسلم۔ کتاباللباس) مشہور مؤلف مولانا عبد السلام ندوی لکھتے ہیں کہ "صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کا تجارتی ذوق اس قدر ترقی کر گیا تھا کہ وہ اس کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ معاش پسند نہیں کر سکتے تھے"۔ (سیر الصحابة۔ جلد چشم۔ اسوہ صحابة۔ حصہ اول۔ ص ۴۲۳)

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلے کے لوگ تجارت پیشہ تھے، آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست احباب، رفقا اور صحابہ بھی تجارت کو پسند فرماتے تھے اور یہی ذریعہ معاش اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام ان سب کی نظروں میں، اعلانِ نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، معزز و محترم تھے اور رہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی تحسین فرمائی ہے اور لوگوں کو اس پر اکسیا ہے۔ یہ سب حقائق متوجہ کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر تجارت میں کسی نہ کسی طرح مصروف رہے اور ان کی معاشی زندگی کا انحصار کبھی مزدوری پر یا زوجہ محمدؐ کے مال پر یا مسجدِ نبوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں آنے والے ہدایا پر نہیں تھا۔ اللہ کرم ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے کمتر بے بنیاد باتیں کرنے یا اسنے سے محفوظ رکھے۔

حضرت صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا میا ب تاجر تھے

سیرت کی کتابوں میں عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے نام پر میسر و کے ساتھ سفر شام کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ جو سفر آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے حضرت ابو طالبؑ کے ساتھ کیا تھا، اس میں تو بھیرا اہب کے مشورے کے بعد واپسی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے لیے تجارت کا شغل اختیار فرمایا۔ پروفیسر خالد علوی کہتے ہیں۔ "تاریخ و سیرت کی کتابوں میں آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی معاشی زندگی پر بہت کم موارد ملتا ہے تاہم جو ارشادات ملتے ہیں، ان سے پتا چلتا ہے کہ آپؑ نے زمانہ قبل از نبوت میں شغل تجارت اختیار فرمایا۔ حضرت خدیجؓ نے جب آپؑ کو اپنا مال، تجارت کے لیے دیا، اس وقت تک آپؑ بحیثیت تاجر اپنی شخصیت کو منداٹ کے تھے۔" (روض الانف، طبقاتِ ابن سعد اور مواهب المدنیہ بحوالہ سماںی "اسلامی تعلیم" لاہور۔ جنوری فروری ۱۹۷۳۔ ص ۳۹، ۴۰)

اعلانِ نبوت کے بعد کے ذکر میں کہتے ہیں۔ "قبل از نبوت کی معاشی جدوجہد کا کچھ سراغ ملتا ہے لیکن بعد از نبوت کی معاشی سرگرمیوں کا کچھ زیادہ پتا نہیں چلتا۔ اعلانِ نبوت کے بعد دراصل آپؑ کی حیثیت ہمد و حق کارکن کی تھی..... اس ہمد و حق کام کے باعث ابتدائی برسوں میں وہ پونجی کام آتی رہی جو آپؑ نے بذریعہ تجارت اکٹھی کی تھی یا حضرت خدیجؓ کی ملکیت تھی"۔ (اسلامی تعلیم۔ جنوری فروری ۱۹۷۳۔ ص ۲۱)

جمع پونجی کے استعمال کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن حضرت خدیجؓ کے مال کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استعمال کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ سیرت کی کتابوں میں عموماً یہی کہا جاتا ہے یا تاثر دیا جاتا ہے کہ جب یہ شادی

ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی پریشانیاں ختم ہو گئیں۔ اس موضوع پر تفصیل گفتگو آگے آئے گی۔

خالد علوی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ "آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو قبل از نبوت فکرِ معاش ہوئی تو آپ نے شغل تجارت اختیار فرمایا۔ متعدد تجارتی سفر کیے..... آپ نے بطور تاجر اندر وون ملک اور بیرون ملک کام کیا، شرکت بھی کی اور مختلف لوگوں سے کاروباری معاملات بھی کیے"۔ (ماہنامہ "فکر و نظر" اسلام آباد۔ مارچ ۱۹۸۳۔ ص ۷)

ڈاکٹر صاجبزادہ ساجد الرحمن "سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم" میں لکھتے ہیں۔ "اکل حلال اسلامی تعلیمات کا خاصہ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات عالیہ میں حلال روزی کمانے پر شدت سے زور دیا۔ چنانچہ آپ نے بعثت سے بہت پہلے اپنے لیے تجارت کو ذریعہ روزگار بنایا"۔ (ساجد الرحمن۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ص ۱۲، ۱۳) سوائی لکھمن پر شاد کامنا ہے۔ "تجارت آپ کا محبوب پیشہ تھا۔ اوائل عمر سے آپ کو اسی پیشہ سے سابقہ پڑا تھا"۔ (لکھمن پر شاد، سوائی۔ عرب کا چاند۔ ص ۱۰۰)

سید جمال حسینی کی "روضۃ الاحباب" میں جمال نزوں وحی کا ذکر ہے،

وہاں دوسرے سیرت نگاروں کی طرح انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں اور مصیبت زدوں کی امداد کرتے ہیں۔ مفتی عزیز الرحمن نے کتاب کے اردو ترجمے کے حاشیے میں لکھا ہے کہ "یہ تفاصیل بخاری، مسلم اور تفسیر ابن کثیر میں موجود ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کما کر کھلاتے ہیں... اخن۔ معلوم ہوا کہ کسب معاش کے ذریعہ پرورش عیال، غیر پروری، مہمان نوازی کرنا انتہائی اعلیٰ وصف ہے" (عزیز

الرحمن، مفتی۔ رسالتاً بصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتاب "روضۃ الاحباب" از سید جمال حسینی کا اردو ترجمہ ہے۔ ص ۳۹)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تجارت کرتے تھے، اس ذریعے سے کما کر اہل دعیاں کو پالنے کے علاوہ، غریب پروری، مہمان نوازی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشریت خدیجہ کی دلتوں کی امداد فرماتے تھے۔ اور یہ حقیقت اُمّ المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس موقع پر ظاہر فرمائی ہیں، جب زیادہ تر سیرت نگاروں کے بقول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشیات کا انحراف حضرت خدیجہ کی دلت پر تھا۔ اس طرح پھیلائی جانے والی اس اہم غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کماتے تھے اور بہت سی مددات پر خرچ فرماتے تھے۔ اس پر مزید بحث آئندہ ہو گی اور یہ بھی ثابت کیا جائے گا کہ "ہمہ وقت کارکن" کی حیثیت سے کام کرنے والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانِ نبوت کے بعد، اور مدینہ طیبہ میں قائم ہونے والی مملکت کے سربراہ ہوتے ہوئے بھی اپنے پیشہ تجارت کو نہیں چھوڑا، اور یہ تاثر غلط ہے کہ مولویوں اور بیروں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عقیدت مندوں کی جیبیں ہلکی کر کے اور محلہ داروں کی روئیاں کھا کر گزران کرتے تھے۔

آر، وی، سی باڈلے لکھتے ہیں۔ "تجارت میں دیگر تاجروں کے علاوہ اپنے بچپا کی نمائندگی کرنے اور ان کا کام سنجالنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ مدت انتظار کی زحمت گوارا نہیں کرنی پڑی بلکہ پچیس سال سے بھی کم عمر کے تھے کہ آپ کا شمار مغربی عرب کے سرگرم عمل اور مستعمِ کار تاجروں میں ہونے لگا۔ اس وقت تک آپ کی محنت و دیانت کی شریت پھیل چکی تھی"۔ (باڈلے۔ آر، وی، سی۔ الرسول۔ اردو ترجمہ از ڈاکٹر ایم ایمس ناز۔

ڈاکٹر نصیر احمد ناصر لکھتے ہیں۔ ”آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے حضرت ابو طالبؑ کے ساتھ سفر شام کے بعد پہنچیں برس تک معاشی زندگی کیسے گزری؟ آپؑ نے پھر بیوں ملک سفر کیے یا نہیں؟ تاریخ سے ان سوالوں کا منفصل و قطعی جواب نہیں ملتا۔ البتہ مختلف ذرائع سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپؑ نے اپنے بچا کے ساتھ ایک سے زائد بار تجارتی سفر کیے تھے اور کئے میں آپؑ اکیلے یا بچا کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ علاوہ یہ میں، آپؑ اپنا مال تجارت دساور کو جانے والے کاروبارِ تجارت کے پروپریتی کر دیا کرتے تھے۔ احادیث و آثار سے اس بات کا سراغ بھی ملتا ہے کہ آپؑ لوگوں کا تجارتی مال بھی دساور لے جایا کرتے تھے۔“ (نصیر احمد ناصر، ڈاکٹر نصیر اعظم و آخر۔ ص ۲۱)

سید حیدر سعیدنی (رض) فضل الرحمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کاروباری زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بچا ابو طالبؑ بھی تجارت کرتے تھے۔ آپؑ نے بھی بچپن میں ان کے ساتھ تجارتی سفر کیے تھے۔ جس سے آپؑ کو خرید و فروخت میں خاصاً تجربہ حاصل ہو گیا تھا اور آپؑ کے حسن معاملہ کی شہرت بھی عام ہو چکی تھی۔ چنانچہ بڑے ہو کر آپؑ نے حصول معاش کے لیے اسی خاندانی پیشے کو اپنایا۔ (فضل الرحمن، سید ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مطبوعہ کراچی۔ ۱۹۹۱۔ ص ۹۳، ۹۴)

معلوم ہوا، کسی نہ کسی صورت میں اب لوگ یہ مانتے گئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی، تجارت میں نام کملایا، تجارتی سفر کیے۔ شروع ہی سے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کماکر کھانے اور گمراہ والوں کے علاوہ غریبوں، مصیبتوں زدوں کی مدد کرنے اور مہمان نوازی کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، اس لیے حضرت خدیجہؓ سے نکاح کے بعد ان کی رقم پر یا مملکتِ اسلامیہ کے قیام کے بعد بیت المال یا ہدایا پر اخصار کرنا آپؑ کے لیے ممکن نہ تھا۔ جو لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کی سوچ کا انداز مناسب نہیں ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک تجارت افراد

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور تاجر اندر وون ملک اور بیرون ملک کام کیا، شرکت بھی کی اور مختلف لوگوں سے کاروباری معاملات بھی کیے۔ (اہنامہ ”فکر و نظر“ اسلام آباد۔ مارچ ۱۹۸۳۔ ص ۷۔ مضمون ”رسول اکرم“ کی معاشی تعلیمات پر ایک نظر“ از خالد علوی) پروفیسر اختر راهی نے کاروبار میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت اور امانت کی شہرت کے حوالے سے

سید سلیمان ندوی ”رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم“ میں لکھتے ہیں کہ قریش کے شریقوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا۔ جب ہمارے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کاروبار سنبھالنے کے لائق ہوئے تو اسی پیشہ کو اختیار فرمایا۔ آپؑ کی نسلکی، سچائی اور اچھی برداشت کی شہرت تھی، اس لیے اس پیشہ میں کامیابی کی راہ آپؑ کے لیے بہت جلد کھل گئی۔ (سلیمان ندوی، سید۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطبوعہ کراچی۔ ص ۱۸) خالد وحید سعیدنی کہتے ہیں۔ ”حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی شاہد ہے کہ آپؑ نے کبھی دنیا سے نفرت نہیں فرمائی اور مال و دولت پیدا کرنے میں کبھی تسائل نہیں برتاؤ۔ نبوت سے پہلے آپؑ تجارت فرمایا کرتے تھے اور بہت قارنگ الیالی کی زندگی برقرار تھے۔“ (اہنامہ ”خاتون پاکستان کراچی۔ رسول نمبر۔ اگست ۱۹۷۳۔ مضمون ”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی“ از خالد

مقامی طور پر بھی اور تجارتی اسفار میں بھی کاروبار میں شامل رکھا۔ حضرت زبیر بن عبد الملک^ہ کے ساتھ تجارتی سفروں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جب آپ^(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نوجوان ہو گئے تو آپ^ہ نے اپنا کاروبار تجارت نہ صرف پوری طرح سنبھالا، بلکہ اس میں اپنی خصوصیات کو منوایا، صادق اور امین کمالائے اور مکہ کے تجارت پیشہ افراد اس خواہش کا اظہار کرنے لگے کہ آپ^ہ کے ساتھ مل کر تجارت کریں۔

شریک^ہ تجارت سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی ملکی یا غیر ملکی تجارت میں مشترکہ سرمایہ کاری کی جائے لیکن عرب کے عام تجارتی طریقے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک^ہ تجارت افراد کی حیثیت یہ ہوتی تھی کہ ان میں سے جو شخص کوئی تجارتی سفر کرتا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان تجارت بھی لے جاتا تھا اور وہاں سے آپ^ہ کی ہدایات کے مطابق سامان خرید کر لے آتا تھا۔ اسی طرح جب سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام تجارت کے لئے کہیں تشریف لے جاتے تو دوسروں کا سامان تجارت ساتھ لے جاتے اور وہاں سے ان کے لیے مناسب سامان خرید فرماتے۔ معلوم ہوتا ہے، اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دوسرے شریک^ہ تجارت افراد سفروں پر جاتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے زیادہ منافع کرتے رہے۔

تجارت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تجربہ اور مہارت اس قدر تھی کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی میں تجارت کرتا تھا، زیادہ فائدہ حاصل کرتا تھا۔ جو لوگ آپ^ہ کے شریک^ہ تجارت نہیں تھے، وہ بھی آپ^ہ سے ضروری تجارتی رہنمائی اور مشورہ کرتے تھے۔ حضرت ابو طمامہ^ہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ

لکھا ہے کہ اس وجہ سے بہت سے لوگ آپ^ہ کو اپنا شریک^ہ تجارت بنانے کی خواہش کا اظہار کرنے لگے۔ (ماہنامہ "محدث" لاہور۔ رسول مقبول نمبر۔ حصہ اول۔ ص ۱۳۳۔ مضمون "رسول مقبول" کی معاشی زندگی۔ از اختر راہی۔) ڈاکٹر صاجززادہ ساجد الرحمن بھی کہتے ہیں۔ "جب اس نوجوان نے معاشی میدان میں قدم رکھا تو عرب کے ہر سردار کی یہ خواہش تھی کہ یہ نوجوان اس کا شریک^ہ معاملہ ہو جائے۔" (ساجد الرحمن۔ سیرت رسول۔ ص ۲۶) ضیاء الدین کمالی اپنی انگریزی کتاب "ابدی پیغام کے آخری پیغمبر" میں لکھتے ہیں۔ "رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو تجارت میں آپ^ہ کے بھجا زیر اور کے کے دوسرے خاندانوں سے تعلق رکھنے والے بعض دوستوں نے لگایا اور جلد ہی آپ^ہ تجارتی حلقوں میں معروف ہو گئے۔ یہ بات یقینی ہے کہ آپ^ہ نے دلائی نہیں بلکہ شرکت کی بنیاد پر کام شروع کیا۔" (ماہنامہ "فیض الاسلام" راولپنڈی۔ ستمبر ۱۹۹۲۔ ص ۲۵۔ ضیاء الدین کمالی کی انگریزی کتاب کے اردو ترجمہ از انٹرہائی کا اقتباس)

علامہ شبیل نعمانی کہتے ہیں۔ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرکائے تجارت کی شادتوں سے، جو احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ آپ^ہ کس دیانت اور راست بازی کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے تھے۔" (شبیل۔ سیرت النبی۔ جلد اول۔ باب ظہور قدسی۔ "شغل تجارت") حقیقت یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پدر عالی وقار حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تجارتی اٹاٹا شاہ جات سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا نے تجارت میں لگائے رکھے۔ پھر حضرت عبد الملک^ہ کی نگرانی میں یہ کام جاری رہا۔ ان کے بعد حضرت ابوطالب^ہ نے یہ مال اپنی سرپرستی اور نگرانی میں تجارت میں لگائے رکھا۔ جب موقع ملا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ تھوڑی ریے کے لیے یہاں توقف کریں تو میں گھر ہو آؤں اور پھر آپ سے ایک ضروری معاملے میں مشورہ لوں۔ (الشمن پر شاد، سوائی۔ عرب کا چاند۔ ص ۹۹)

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلے شریک تجارت، آپ کے بچا ابو طالب تھے۔ اور، جیسا کہ ہم پلے عرض کرچکے ہیں، حضرت عبد اللہؓ کے سامانِ تجارت اور ترکے کو حضرت ابو طالبؓ نے کاروبار میں لگایا اور بچپن ہی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شام کے تجارتی سفر میں ساتھ لے جانے کا مقصد بھی آپؓ کو کاروباری رموز سے آگاہ کرنا تھا۔ اور، یہ کہانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچا کی ہمگوں سے پٹ گئے کہ میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا، محض کہانی ہے۔ ڈاکٹر نور محمد غفاری اگرچہ اس حقیقت کو تو تسلیم نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں۔ «آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچا ابو طالب کے ساتھ رہ کر اور ان کے ساتھ بعض تجارتی سفر کے تجارتی معاملات کا تجربہ حاصل کر لیا تھا۔ آپؓ کے تجارتی اخلاق کا ہر شخص گروپہ تھا»۔ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی۔ ص ۵۷) سید فضل الرحمن بھی لکھتے ہیں۔ «آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بچا ابو طالب بھی تجارت کرتے تھے۔ آپؓ نے بھی بچپن میں ان کے ساتھ کچھ تجارتی سفر کیے تھے جس سے آپؓ کو خرید و فروخت میں خاصا تجربہ حاصل ہو گیا تھا اور آپؓ کے حسن معاملہ کی شہرت بھی عام ہو چکی تھی۔» (فضل الرحمن، سید۔ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ص ۹۲، ۹۳)

بادلے لکھتے ہیں۔ «تجارت میں دیگر تاجر ہوں کے علاوہ اپنے بچا کی نمائندگی کرنے اور ان کا کام سنبلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ وقت انتظار کی رحمت گوارا نہیں کرنی پڑی۔ بلکہ بچپن سال سے بھی کم عمر کے تھے کہ آپؓ کا شمار مغربی عرب کے سرگرم عمل اور مستعد کار تاجر ہوں میں

ہونے لگا۔» (بادلے۔ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اردو ترجمہ۔ ص ۸۰)

اپنے بڑے بچا حضرت زبیر بن عبد الملکؓ کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سفر میں کا ذکر بھی پسلے آچکا ہے۔ (الوقا۔ ص ۳۲/ سیرت دھلانی۔ ص ۳۶۳/ تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ص ۲۲۰/ نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۲۔ ص ۲۵/ روضۃ الاحباب۔ اردو ترجمہ از مفتی عزیز الرحمن بنام "رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم"۔ ص ۲۸) ایم ذی قاروq اور محمد احسان الحق تو اس کے قائل ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے تجارتی سفر کیے، وہ اپنے تماں حضرت زبیرؓ کی معیت میں کیے۔ (تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ص ۲۸، ۲۰۸/ شلبی۔ سیرت طیبہ۔ ص ۳۱ (حاشر))

چنانچہ اس حقیقت کو ماننے میں تأمل یا تردود کی کوئی گنجائش نہیں کہ حضرت زبیرؓ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار یا ایک سے زیادہ مرتبہ جتنے بھی سفر کیے، وہ تجارتی سفر ہی تھے اور اس میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تماں جان کے ساتھ شریک تجارت کی حیثیت سے تشریف لے گئے تھے۔

یہ تو واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بچپن اور شباب مبارک کے بارے میں معلومات کتب سیرت میں بہت کم ملتی ہیں۔ اعلانِ نبوت کے بعد کے واقعات یا حدیث طیبہ میں مستقل قیام کے بعد کے حالات کو قلم بند کرتے ہوئے بھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشی حالات لکھنے پر زیادہ توجہ نہ دی گئی اور ایسے اشارات مہیا کیے گئے جو بعض صورتوں میں حضور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے مطابق نہیں۔ ایسے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تجارت اور کاروباری زندگی کے بارے میں جو واقعات ملئے ہیں، ان سے بھی بڑی حد تک صرف نظر کیا گیا، پر ان سے موزوں نہ کج

ربانی عزیز نے کیا) ابراہیم یا الکوئی اور ابو الجلال ندوی نے بھی اس تاجرانہ سفر کا ذکر کیا ہے۔ (سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصہ اول۔ ص ۱۳۶، ۱۷۳۔ / ۲۵ ص ۲۵۔ رسول نمبر۔ جلد ۲۔ مضمون "فخر موجودات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی" از ابو الجلال ندوی)

اگرچہ اس معاملے میں کتب سیرت خاموش ہیں لیکن جشن پیر محمد کرم شاہ الازہری کا خیال درست معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی تجارتی سفروں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ گئے۔ لکھتے ہیں۔ "بعثت سے پہلے بھی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے درمیان گرے دوستانہ مراسم تھے۔ ایک دوسرے کے پاس آمدورفت، نشست و برخاست، ہر اہم بات پر صلاح مشورہ، ہر روز کا معمول تھا۔ کئی تجارتی سفر جو بیرون ملک پیش آئے، ان میں بھی ابو بکر حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ہم سفر رہے۔" (ابن اسما "نورِ اسلام" شریق پور۔ نومبر ۱۹۹۲۔ ص ۹۔ مضمون "حضرت سیدنا صداق اکبر" ۲۵ از پیر محمد کرم شاہ الازہری) سید سلیمان ندوی بھی لکھتے ہیں۔ "آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے کاروبار کے ایک اور ساتھی کا نام ابو بکر تھا۔ وہ بھی مکہ ہی میں قریش کے ایک سوداگر تھے۔ وہ بھی کبھی سفر میں آپؑ کے ساتھ رہتے تھے۔" (سلیمان ندوی، سید۔ رحمتِ عالم۔ ص ۱۹)

سیرت بنوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر قلم اخنانے والوں میں سے پیشتر نے یا تو حضور علیہ السلام کو مزدوری پر حضرت خدیجہؓ کے قافلے کے ساتھ بھیجا ہے، یا اس کام کو ملازمت گردانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کی طرف یہ تیرا سفر حضرت خدیجہؓ کے شریک تجارت کی حیثیت سے تھا۔ اس پر تفصیلی تفگیتو تو آگے آئے گی۔ فی الحال یہ دیکھیے کہ بعض سیرت نگار بھی اس سفر کے حوالے سے حضرت خدیجہؓ کو حضور علیہ السلام

حاصل کرنے کی طرف توجہ نہ دی گئی۔ لیکن ہم نے اس خیال سے اس موضوع پر حاصل ہونے والی جزوئی معلومات کی تدوین سے یہ کوشش کی ہے کہ گھٹائیں چھٹ جائیں، صورت حال واضح ہو کر سامنے آجائے اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر خود کا کرنہ صرف اپنے عیال کو بلکہ مصیبت زدؤں، غریبوں، مسافروں اور مہمانوں کو کھلاتے رہے۔

اپنے تیما حضرت زبیرؓ اور پچھا حضرت ابو طالبؓ کے ساتھ تجارت کی شرکت کے بعد یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ آپؑ کے عزیز دوست (جن کی رفاقت نوجوانی سے آج تک ضرب المثل ہے) حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ مل کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی۔ اور اگرچہ سیرت نگار حضرات نے اس طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تعلق زندگی بھر رہا۔

"انوارِ محمدیہ" میں ہے۔ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہما) راوی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق اخبارہ برس کے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بیس سال تھی، وہ دونوں اکٹھے پر غرض تجارت شام کو گئے اور ایک ایسے مقام پر اترے جس میں بیبر کا درخت تھا۔ آپؑ اس کے سامنے کے نیچے بیٹھ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق بھی راہب کے پاس کوئی بات پوچھنے گئے۔ راہب نے پوچھا، درخت کے سامنے میں وہ شخص کون ہے؟ کہا، محمد بن عبد اللہ بن عبد الملک ہیں۔ کہنے لگا، بندا اس درخت کے سامنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا مقدر ہے اور آپؑ پیغمبر ہیں۔ (انوارِ محمدیہ۔ ص ۵۲۔ امام قطلانی کی مشہور زمانہ کتاب "المواہب اللدنیہ" کی تلمذیح امام یوسف بن اسما عیل نہیانی نے "الانوار الحمدیہ" کے نام سے کی۔ زیرِ نظر کتاب اس کا اردو ترجمہ ہے جو پروفیسر غلام

ابن ہشام۔ اردو ترجمہ از عبد الجلیل صدیقی۔ حصہ اول۔ ص ۸۲۰)

حضرت سائبؑ کا (اگر وہ ابن الی ساب ہیں) اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت ہوتا تو حدیث کی رو سے ثابت ہو جاتا ہے، جب سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ابھی اعلانِ نبوت نہیں فرمایا تھا۔ شبلی نعمانی سنن ابو داؤد میں حضرت سائبؑ کے بارے میں بیان کردہ وہ حدیث کے حوالے کے بعد قیس بن سائبؑ مخوبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے شریک تجارت تھے۔ نیز لکھتے ہیں کہ ”وہ بھی انھی الفاظ کے ساتھ آپؑ کے سنِ معاملہ کی شاداد دیتے ہیں“۔ (شبلی۔ سیرت النبی۔ جلد اول۔ ”فعل تجارت“) شبلی نے یہ بات ”اصابہ فی تمیز الصحابة“ کے حوالے سے کہی ہے۔ پروفیسر خالد علوی نے شبلی کے یہ الفاظ اپنے مضمون میں نقل کیے ہیں لیکن حوالہ ابن حجر (اصابہ) یا شبلی (سیرت النبی) کا نہیں، سنن ابو داؤد کتاب الادب، باب فی کراہیۃ المراء کا ویا ہے۔ (فلک و نظر۔ مارچ ۱۹۸۳۔ ص ۹۷) جو درست نہیں۔ ابو داؤد کی اس بات میں قیس بن سائبؑ کے بارے میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔

مولانا سید محمد میاں نے سائب بن الی ساب کے بارے میں سنن ابو داؤد میں بیان کردہ حدیث ہی قیس بن سائب سے منسوب کر دی ہے۔ (سیرت مبارکہ محمد رسول اللہ، قرآن اور تاریخ کے آئینہ میں۔ مطبوعہ لاہور۔ ۱۹۸۶۔ ص ۱۹۱)

ابن اشیر قیس بن سائب کا ذکر الگ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ بعض کے بقول یہ زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ (اسد الغابہ۔ جلد ہفتم۔ ص ۲۹۰)

حضرت سائبؑ کے بارے میں حدیث پاک بیان ہو چکی۔ اصحاب میں

والسلام کا شریک تجارت ہی قرار دیتے ہیں۔ مثلاً پروفیسر خالد علوی کہتے ہیں۔

”نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اخلاقی شریت کی وجہ سے حضرت خدجہؓ نے آپؑ کو شرکاٹ پر تجارتی کام کے لیے آمادہ کیا اور آپؑ کو میرن ملک اسفار پر بھیجا۔“ (فلک و نظر۔ مارچ ۱۹۸۳۔ ص ۷) مولانا حفظ الرحمن سیواہاروی بھی منافع میں نصف کا شریک بنا کر بھیجنے کی بات کرتے ہیں۔ (حفظ الرحمن سیواہاروی۔ نور البصر فی سیرت خیر البشر۔ ص ۳۲) خالد وحید تھمنی بھی اس معاملے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریک تجارت کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ (خاتون پاکستان۔ رسول نمبر۔ اگست ۱۹۶۳۔ ص ۲۲)

سنن ابو داؤد میں ہے، حضرت سائبؑ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ لوگ میرا ذکر کر رہے تھے اور میری تعریف کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اسے خوب جانتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان! آپ نے سچ ارشاد فرمایا۔ آپ میرے شریک تجارت تھے۔ لکھنے اچھے شریک تھے، نہ کھینچا تانی کرتے اور نہ جھکڑا کرتے۔ (سنن ابو داؤد۔ کتاب الادب۔ باب فی کراہیۃ المراء۔ حدیث نمبر ۳۰۹ / سیرۃ الصحابة۔ جلد دوم۔ مہاجرین حصہ اول۔ ص ۳۸ / نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشری زندگی۔ ص ۵۷) ابن اشیر نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے۔ (اسد الغابہ۔ جلد چارم۔ ص ۲۰)

امام عبد الرحمن ابن جوزی حضرت سائبؑ کی بارگاہ مصطفوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں حاضری کا یہ موقع فتح کمہ کا قرار دیتے ہیں۔ (الوفا۔ ص ۱۸۱)

ابن ہشام نے کسی حوالے کے بغیر سائب بن الی ساب بن عائذ بن عبد اللہ بن عمر بن مخروم کے بارے میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ ”سائب بہترین شریک ہے کہ نہ وہ اصرار کرتا ہے، نہ جھکڑا کرتا ہے۔“ (سیرت النبی کامل مرتبہ

ہے، حضرت عبد اللہ بن سائب کہتے ہیں، "زمانہ جاہلیت میں میں آپ کا شریک تجارت تھا۔ جب اسلام قبول کرنے کے بعد حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے سوال کیا، مجھے پچھانتے بھی ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، آپ تو میرے شریک تجارت تھے۔ کیا ہی اچھے شریک تھے، نہ کسی بات کو نالئے تھے، نہ ہی سکرار کرتے تھے۔" (اصابہ بحوالہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشری زندگی۔ ص ۶۷۔ ڈاکٹر نور محمد غفاری نے اصابہ کا نام "اصابہ فی تعریفِ الحجابة" لکھا ہے، جو غلط ہے)

ابن اشیر نے ان کا پورا نام عبد اللہ ابن سائب بن ابی سائب لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ان سے اہل مکہ نے قراءت حاصل کی تھی۔ یہ بھی ہے کہ ابن کثیر نے قرآن پاک حضرت مجاہد بن جیسر سے پڑھا اور مجاہد نے عبد اللہ بن سائب سے۔ ہشام بن محمد کلبی نے کہا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تجارت تھے۔ واقعی سائب بن ابی سائب کو اور بعض دوسرے، قیس بن سائب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شریک تجارت قرار دیتے ہیں۔ (اسد الفاقہ۔ جلد چھم۔ اردو ترجمہ۔ ص ۲۳۲) علامہ جلال الدین سیوطی عبد اللہ بن سائب کو شریک تجارت بتاتے ہیں۔ (المحاسن الکبری۔ جلد اول۔ اردو ترجمہ از راجارشید محمود۔ ص ۲۸) یہدی فضل الرحمن عبد اللہ بن سائب اور قیس بن سائب دونوں کو شریک تجارت بتاتے ہیں۔ (ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ص ۹۳)

ہم پلے لکھے چکے ہیں کہ شبی سائب بن ابی سائب اور قیس بن سائب دونوں کو شریک تجارت لکھتے ہیں۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں۔ ابن عبد البر نے استیاع میں قیس بن السائب بن عویس مخزوی لکھا ہے، "مسند احمد کی کسی روایت میں سائب بن عبد اللہ الحنفی بیان کیا گیا ہے اور کسی میں سائب بن ابی

السابق۔ ابو داؤد میں ان کا نام سابق ہی بیان کیا گیا ہے۔ (مودودی، ابوالاعلیٰ۔ سیرت رسولِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۱۸۸)

سابق، قیس بن سابق، عبد اللہ بن سابق کے حوالے سے سامنے آنے والی ان روایتوں سے ہو سکتا ہے، ایک ہی شخصیت مراد ہو، لیکن یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ کوئی باپ بینا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاروبار میں شریک رہے ہوں۔

امام عبد الرحمن بن جوزی (الوفا۔ ص ۲۸ تا ۲۹) اور امام جلال الدین سیوطی (المحاسن الکبری۔ جلد اول۔ ص ۱۸۷ تا ۱۸۹) ابوسفیان بن حارث کے بارے میں تفصیلی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اور امیہ بن ابی الصلت شام کے تجارتی سفر کو گئے۔ وہاں نصرانی عالموں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارتیں سنیں۔ مکہ مکرمنہ واپس پہنچ کر چند روز قیام کیا اور پھر ابوسفیان کہتے ہیں، میں تجارت کے لئے حصہ چلا گیا۔ پہنچ ماہ کے بعد وہاں سے واپس آیا تو لوگ میرے پاس آتے، اپنے سامان کے متعلق اور قیمتِ فروخت کے متعلق دریافت کرتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں میرے پاس آئے، مجھ سے میرا حال چال پوچھا، سفر کی تفصیلات دریافت کیں اور پھر تشریف لے گئے، اپنے سامان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، حالانکہ سامان اُن کا بھی میرے پاس تھا۔ (الوفا۔ ص ۲۷)

حضرت خزینہ اُم المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سمجھتے ہوں جانے ہیں کہ جس سفر شام میں میسر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لئے ہمراہ تھے، اس میں حضرت خزینہ بھی ساتھ تھے۔ لیکن باذلے لکھتا ہے کہ "خزینہ کہ حضرت خدیجہ کے سمجھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقیریا" ہم عمر تھے، انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

ساتھ کی تجارت ممبوں میں شریک ہونے کا موقع ملا تھا اور دوسرے کی لوگوں کی طرح جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کو گئے۔ آپ ابھی تک مکہ ہی میں تھے۔ حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دریافت فرمایا، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ضیعہ بن ربیعہ سے۔ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا، ربیعہ کے ذیلی قبائل میں عبد القیس کا نمبر پہلا ہے، اور پھر تمہارا۔ راوی کہتا ہے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طے دے کر انھیں خرید و فروخت کے لیے یعنی کوروان کیا۔ (اسد الغابہ۔ جلد نہم۔ ص ۸۶)

قارئین کرام محسوس فرمائتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عزیزوں، دوستوں اور اہل قبیلہ کو تو اپنی تجارت میں شریک فرماتے ہی تھے، باہر سے آنے والے صحابہ کو بھی مال دے کر تجارت کی غرض سے روانہ فرمادیتے تھے۔ اس طرح، کتبہ یہر کے خاموش رہنے کے باوجود حالات زبان سے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی حیاتِ طیبہ کے کسی مرحلے میں بھی کسبِ معاش سے توجہ نہیں ہٹائی اور اپنے معاشی پیشے، تجارت کے لیے لوگوں کو شریک تجارت بنائے رکھا۔ اور کسی لمحے کے لیے بھی انہوں نے اپنی محترم الہیہ یا صحابہ کے مال پر نظر نہیں رکھی۔

ایک اہم شریک تجارت --- حضرت خدیجہ

جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد تجارت ہی کے پیشے سے وابستہ تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدِ گرامی اپنی نوجوانی کے عالم میں تجارت ہی کے سلسلے میں سفر پر تشریف لے گئے اور یہاں میں انتقال فرمایا، جب خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے تجارتی سفر

ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حکیم بن حرام کو ایک دنار قربانی کا جانور خریدنے کے لیے دیا۔ انہوں نے ایک مینڈھا ایک دنار میں خریدا اور دو دنار میں بیچ ڈالا۔ پھر ایک جانور ایک دنار میں خریدا اور اس کو مع اس دنار کے، جو نفع میں حاصل ہوا تھا، لے کر بارگاہ و رسالت میں آپنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دنار صدقہ کر دیا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ (مکہوت، ترمذی و ابو داؤد۔ بحوالہ "آسمانِ بدایت کے ستر ستارے" از طالب ہاشمی۔ ص ۲۷)

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکیم بن حرام کے مراسم کی بنیاد دوستی تو تھی لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک تجارت بھی تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ دین اور مدینۃ طیبہ میں امورِ مملکت میں زیادہ مشغول ہو گئے تو آپ کی تمام تر تجارت آپ کے شریک تجارت لوگوں ہی کی معرفت ہوتی تھی۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ وہ مقامی یا غیر مقامی طور پر مال و اسباب کی خرید و فروخت کر سکتے۔ ایسے میں وہ حضرات جن کا ذکر اور آچکا ہے، اور وہ حضرات جن کے بارے میں تاریخ و میرے کے کونے کھدرے بھی خاموش ہیں، ان کی شرکت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت فرماتے رہے۔

شروع کر دیے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سلطے میں عرب کی تجارتی منڈیوں کے سفروں کے علاوہ بیرون ملک بھی تشریف لے جاتے رہے، جب تجارت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کامیابی اور شہرت کا یہ عالم ہوا کہ صادق اور امین مشہور ہو گئے، جب ہمارے محترم سیرت نگاروں کے اس طرف توجہ نہ دینے کے باوجود کئی شرکی تجارت لوگ سامنے آتے ہیں۔----

تو اس بات کا کیا جواز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہؓ کی ملازمت کریں یا اُجرت لے کر ان کا سامان، تجارت کی غرض سے شام یا کہیں اور لے جائیں۔

در اصل حضرت خدیجہؓ کے سلطے میں گھری جانے والی کمائی کے زیادہ تر حصے بے بنیاد ہیں لیکن چونکہ کمائی کاروں کے نام بڑے بڑے ہیں، اس لیے لوگ گفتگویوں نہیں کرتے کہ فتوؤں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محظوظ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے ڈرنا تو اللہ کی گرفت سے چاہیے، اور، اگر ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقام اور مرتبے سے دور تر بات کرتے ہیں یا جانتے بُوچھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلط حالات، غلط واقعات منسوب کرتے ہیں یا انسیں نقل در نقل بیان کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا یہ عمل ہمیں قیامت کے دن مشکل اور مصیبت میں ڈالے گا۔ سیرت کی سیکھوں ہزاروں کتابوں کا کیا فائدہ، اگر ہر آدمی الفاظ اور فقرے بدلت کرو ہی سب کچھ لکھتا چلا جائے جواب تک لکھا جا رہا ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس میں حقیقت کتنی ہے۔

ہم نے سیرت پاک لکھتے ہوئے ایک ہی نکتہ پیش نظر رکھا ہے کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے کتر لگتی ہے، اس کا تجزیہ کرتے

ہوئے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے سیرت نگار کے نام اور مقام کو سامنے نہیں رکھیں گے۔ بات کا تجزیہ کر کے، ثبوت فراہم کر کے، دلائل کے ساتھ، اصل بات کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائیں گے۔ اسکے سیرت النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے حوالے سے اب تک جو روٹی پٹی باتیں کہی جا رہی ہیں، ان کا تجزیہ ہو اور اصل صورت حال سامنے آئے۔

حضرت خدیجہؓ کے سلطے میں اب تک یہی لکھا جاتا رہا ہے کہ وہ عرب کی مشہور اور بہت بڑی تاجر تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غریب تھے۔ حضرت ابوطالبؓ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا کہ اپنی خدمات خدیجہؓ کی خدمت میں پیش کریں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت نے کسی کے پاس طالب اور سائل بن کر جانا گوارا نہ کیا۔ (محمد کرم شاہ الا زہری، پیر، خیاءُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلد دوم۔ ۲۸) طبقات ابن سعد میں ہے کہ ابوطالبؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ”خدیجہ بنت خویلہ اپنے تجارتی قافلوں میں تمہاری قوم کے کچھ لوگوں کو بھیجا کرتی ہے، اگر وہاں جا کے تم اپنے آپ کو ان پر پیش کرو تو وہ فوراً“ تمہیں منظور کر لیں گی۔“۔ (طبقات ابن سعد۔ جلد اول۔ اخبارُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اردو ترجمہ از عبد اللہ عماوی۔ ص ۲۰۰) شیخ محمد رضا مصری بھی یہی کہتے ہیں کہ ابوطالبؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ”خدیجہ بنت خویلہ تمہاری قوم کے کچھ لوگوں کو اپنے تجارتی اوتھوں کے ہمراہ تجارت کے لیے بھیجا کرتی ہیں۔“۔ (محمد رضا، شیخ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اردو ترجمہ از عادل قدوسی۔ جس ۲۳) اس سے یہ نتیجہ لکھا ہے کہ حضرت خدیجہؓ کسی مختلف قوم سے تعلق رکھتی تھیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی اور قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت

حضرت خدیجہؓ تک پہنچ تو انہوں نے خود پیش کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ”جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیش کی۔“ (ابنہ شام بحوالہ الرحمٰن الحنوم از صفائی الرحمن مبارکپوری۔ ص ۱۰۰) مورخ ابوالغدا لکھتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ بنت خوبید قوم قریش میں ایک صاحب شرافت اور دوستہ بی بی تھیں جن کے یہاں تجارت ہوتی۔ انہوں نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی راست بازی اور امانت داری کی خبریں سن کر آپ سے استدعا کی.....“ (احمد حسین خاں، نواب۔ تاریخ احمدی۔ ص ۴۰) اس سے یہ تائیں ملتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ کے خاندان اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خاندان میں دُوری تھی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبریں خدیجہؓ تک پہنچیں تو انہوں نے پیش کی۔

محمد اور لیں کاندھلوی لکھتے ہیں کہ ”جب گھر گھر میں آپؐ کی امانت و دیانت کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپؐ کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو تو حضرت خدیجہؓ نے آپؐ کے پاس پیام بھیجا۔“ (اور لیں کاندھلوی، محمد۔ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلد اول۔ ص ۹۹، ۱۰۰)

ڈاکٹر نور محمد غفاری نے ان دونوں روایتوں کو ایک کرنے کی کوشش میں یوں آگے پیچھے کر دیا ہے کہ بات غترتہ ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں۔ ”جب حضرت خدیجہؓ نے امین مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور صفائی کے واقعات نے تو پیش کی اور حضرت ابوطالبؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجہؓ کے پاس جانے کو کہا۔ غفاری صاحب نے اس کے بعد پھر لکھ دیا ہے کہ خدیجہؓ کو ابوطالبؓ کے مشورے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے خود ابتدا کی۔“ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی۔ ص ۸۷، ۸۲ حاشیہ)

ان سب روایتوں یا ان روایتوں کی تقطیق کی ہر کوشش سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پہلے سے حضرت خدیجہؓ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی رشتہ نہیں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت کی شرت سن کر خدیجہؓ نے، یا خدیجہؓ کے قافلے کی خبر سن کر ابوطالبؓ نے کوشش کی اور ملازمت یا مزدوری کا یہ کام ہوا۔

جب اس سفر شام سے واپسی ہوئی تو بقول مولانا مودودی، میسرہ نے حضرت خدیجہؓ کو تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اس نے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو کیا پایا ہے۔“ (مودودی، ابوالاعلیٰ۔ سیرت سرویر عالم۔ جلد دوم۔ ص ۳۳۳) اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتی تھیں، میسرہ کی زبانی حالات سن کر واقفیت ہوئی۔ یہی بات تمام سیرت نگار لکھتے ہیں۔

طبقاتِ ابن سعد میں ہے، نفیسہ بنت منبه کہتی ہیں کہ خدیجہؓ کے تجارتی قافلے میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جب شام سے واپس آئے تو چکے سے خدیجہؓ نے مجھے ان کے پاس بھیجا۔“ اور نکاح کی بات ہوئی۔ (طبقاتِ ابن سعد۔ حصہ اول۔ ص ۲۰۳) شیخ محمد رضا مصری کہتے ہیں۔ ”کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو اور بقول بعض اپنی کنیز نفیس کو بھیجا تھا۔“ (محمد رضا، شیخ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ص ۲۳) اس سے بھی یہی بات لکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہؓ میں کسی قسم کا رابطہ نہ تھا، رشتہ داری نہ تھی، میں ملاقات نہ تھی، اسی لیے کنیز کو یا اپنی بیوی کو حضرت خدیجہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔

علامہ شیلی نعمانی نے اس دُوری کو دوسرے انداز میں ثابت کرنا چاہا ہے۔ لکھتے ہیں۔ ”حضرت خدیجہؓ الکبریٰ ایک معزز خاتون تھیں۔ ان کا سلسہ

نہ پانچویں پشت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے اور اس رشتہ کے لحاظ سے وہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی چھپری بن تھیں۔” (شیل نعلانی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلد اول۔ عنوان ”تروین خدیجہ“)

میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے محترم سیرت نگار اس ساری کوشش سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شاید صرف یہی کہ ایک خاتون بنت امیر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غریب ہیں۔ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہو سکتا ہے، ان کا آپس میں میل کیوں ہو۔ یہ ساری پریشانی شاید انھیں اس لئے ہے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عترت اور غرمی کے چنگل سے نکلے ہوئے نظر نہ آجائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ایک سرمایہ دار خاتون اور غریب کارکن کا نہیں ہے کہ ان کی امانت و صداقت کی شہرت نے انھیں متوجہ کیا ہو، یا ان کی ثروت مندی نے راغبین ملازمت یا مزدوری کی طرف راغب کیا ہو۔ یہ تأثیر بھی درست نہیں کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق کئی پشوتوں کے بعد ملتا ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے کئی قریبی رشتے متحقق ہیں۔

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب پھوپھی حضرت صفیہ حضرت خدیجہ کی سکی بھائی ہیں۔ حضرت خدیجہ کے بھائی عوام حضرت صفیہ کے سکے بھائی ہیں۔ طالب المامی لکھتے ہیں۔ ”حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صفیہ نے ایک ہی گھر میں پورش پائی تھی، اس لئے انھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر معمولی محبت تھی۔ خود حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے پیار محبت سے پیش آتے تھے۔“ حضرت صفیہ کو یہ اعزاز

بھی حاصل ہے کہ انہوں نے دعوتِ حق کے آغاز ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ (شہزاد کوثر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ دار خواتین۔ ص ۵۹)

حضرت خدیجہ کے عزیز بھتیجے حکیم بن حرام حضرت خدیجہ سے دو سال چھوٹے تھے۔ عام الفیل سے تیرہ برس پلے پیدا ہوئے۔ (اسد الغابہ۔ جلد سوم۔ ص ۵۵) اعلانِ نبوت سے پلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے تھے۔ (محمد اشرف، عبد المصطفیٰ۔ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلد دوم۔ ص ۹۰/۱۰) محمود احمد غفرن۔ حیاتِ صحابہ کے درخشاں پبلو۔ ص ۱۳۵) مندرجہ احمد کی روایت ہے کہ حضرت حکیم بن حرام نے بیان کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ زیر بن بکار کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت جوں کی توں رہی۔ اگرچہ یہ فتح کے بعد ایمان لائے۔ (مودودی۔ سیرتِ سرورِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۲۲۳)

حضرت خدیجہ کے دوسرے بھتیجے زیر بن عوام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ اگرچہ یہ اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن ان کی ماں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیاری پھوپھی صفیہ ہیں۔

حضرت خزینہ حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے۔ یہ بھی میرہ کے ساتھ سفرِ شام میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ (جمالِ حسینی، سید۔ رسالتِ تائب۔ اردو ترجمہ۔ ص ۲۹) ”روضۃ الاحباب“ میں انھیں حضرت خدیجہ کا رشتہ دار لکھا ہے، ”ابنِ اشیر“ نے انھیں ان کے سرالی رشتہ دار لکھا ہے۔ (اسد الغابہ۔ جلد سوم۔ ص ۱۵۹)

بادلے لکھتے ہیں۔ ”خزینہ کہ حضرت خدیجہ کے ایک بھتیجے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقیریا“ ہم عمر تھے۔ انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے پیار محبت سے پیش آتے تھے۔

و حشی کی مثل اس لحاظ سے واحد ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے جرم کی عینیت کی بنا پر اسے سامنے نہ آتا کا حکم دیا۔

"اسد الغابہ" میں ہے کہ جس شخص نے حضرت حمزہ کا مٹھہ کیا تھا، وہ معاویہ بن مغیرہ بن ابوالعاص بن امیہ تھا جو عبد الملک بن مروان کا ناتا تھا، حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے غزوہ اُحد سے واپسی پر قتل کیا تھا۔ (اسد الغابہ۔ جلد دہم۔ ص ۲۶۷)

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ محبوب چچا حضرت حمزہ حضرت خدیجہ کی بھا بھی حضرت صفیہ کے سے بھائی تھے۔

اب ذرا ابن اسحاق، ابوالغدا، اور محمد ابن سعد (رحمۃ اللہ علیہم) اور دسرے محترم بزرگوں سے پوچھیے کہ اتنی قریبی رشتہ داریوں اور تعلقات سے انہوں نے صرف نظر کیوں کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپؐ کی پھوپھی صفیہؓ نے ایک ہی گھر میں پرورش پائی، زندگی بھر ان میں محبت کا مثالی تعلق قائم رہا، اور حضرت خدیجہؓ حضرت صفیہؓ کی نند تھیں۔ حکیم بن حزام اور خزیںہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دوست تھے اور اس وقت بھی دوست تھے، جب سفر شام ہوا، پھر حضرت خدیجہؓ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس غیریت کا کیا جواز ہے کہ ان کو ان کے بارے میں اور انھیں ان کے بارے میں سُنی شانی یاتوں پر اکتفا کرنا پڑا۔ حضرت حمزہ سے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثلی محبت اور ان کی بسن کا حضرت خدیجہؓ کی بھا بھی ہونا بھی انھیں قریب نہ کر سکا۔ پھر اس وقت کامکہ آج کے کراچی اور لاہور کی طرح کا شر تھوڑا ہی تھا کہ رشتہ دار اور دوست بھی ایک دسرے سے دور ہوتے اور دور رہتے۔

بعض سیرت نگاران مکرم نے جس طرح حضرت خدیجہؓ اور حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی رشتہ داری اور قریبی تعلقات سے اغراض بردا ہے،

وسلم کے ساتھ کئی تجارتی مہموں میں شریک ہونے کا موقع ملا تھا۔ (باؤ لے الرسول۔ ص ۸۸)

حضرت خدیجہؓ کی بھا بھی حضرت صفیہؓ کے بھائی حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عمر دوست، چچا اور رضاعی بھائی تھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ان کے ساتھ اور ان کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ضرب الشل ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مد کے بعد جن پندرہ افراد کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا، ان میں حضرت حمزہ کا قاتل وحشی بھی اور قتل کرانے والی ہند بنت عتبہ (ابوسفیان کی بیوی) بھی تھی۔ (محمد رضا، شیخ۔ محمد رسول اللہ۔ ص ۷۳)

جن پندرہ افراد کے قتل کا حکم دیا گیا، ان میں ایسے بھی تھے جن کے بارے میں ارشادِ نبوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یہ تھا کہ اگر دیوار کعبہ سے لپٹے ہوئے بھی ہوں تو بھی قتل کر دیے جائیں لیکن جب ان میں سے زیادہ تر لوگ اسلام لے آئے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کا اسلام قبول کریا لیکن وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اسے فرمایا گیا کہ "تیرا بھلانہ ہو، آئندہ مجھے اپنا منہ نہ دکھانا۔" (اسد الغابہ۔ جلد نہم۔ ص ۲۸)

وحشی کہتا ہے "اس کے بعد حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی وفات تک آپؐ سے چھپتا پھرا۔" (اسد الغابہ۔ جلد نہم۔ ص ۳۸)

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وحشی کے اسلام کو تو رد نہیں فرمایا، کیونکہ یہی اصول طے فرمایا گیا تھا۔ جب حضرت اسامہ بن زیدؓ نے ایک آدمی کو اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ قتل کر دیا تھا کہ اس نے ڈر کر اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہؓ پر اظہار ناراضی فرمایا۔ (محمد احمد پانی پتی۔ غلامانِ محمد۔ ص ۲۱) لیکن

اسی طرح سفر تجارت کی دوسری جزئیات کے بارے میں بھی افسانے تراش نظریں ہے، وہ ذرا غور تو فرمائیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ ہیں۔ تاریخ و سیرت کے مصادر کی حیثیت رکھنے والی کتابوں سے لے کر آج تک والسلام دوسرے لوگوں سے زیادہ معاوضہ یا اجرت وصول فرمائیں بلکہ اس کے کی کتابیں اس سلسلے میں جو معلومات فراہم کرتی ہیں، وہ اسی طرح دلائل کی گئی لیے مطالبے کی اجازت دیں۔ اگر حضرت خدیجہؓ نے یہ معاوضہ بعد میں برداشت پر پوری نہیں اترتیں جس طرح سیرت پاک اور بہت سے معاملات میں ہو رہا ہوتا تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ زیادہ معاوضہ نہ لیتے کہ یہ معاملے ہے اور ہم ان شاء اللہ سیرت پاک کی چودہ جلدیوں میں ایسے سب معاملات میں سے زیادہ تھا اور ایک طرح کی تکشیش تھی۔ پھر، چار اونٹ معاوضہ ڈھائی تین ماہ کی محنت کے سفر اور کاروباری زیریکی (سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر بحث و تحریک کا ارادہ رکھتے ہیں)۔

حضرت خدیجہؓ کے مالی تجارت کے ساتھ شام کی طرف حضور صلی اللہ مبارک۔ ص ۳۱) کا دلوایا جا رہا ہے، اس عظیم ہستی کو جس پر ان کے دادا علیہ وآلہ وسلم کا وہ سفر جس میں میسرہ اور خریدہ بھی آپؐ کے ساتھ تھے، کس حضرت عبد الملک بن نے ایک ہزار اونٹ ایک موقع پر صدقہ کر دیے تھے۔ حیثیت میں کیا گیا، اس سلسلے میں کتب سیرت میں تین مختلف باتیں کی گئی ہیں۔ ایک (سیرت محمدیہ ترجمہ المواہب اللدنیہ۔ جلد اول۔ ص ۲۶۶۔ علامہ قسطلانی بڑے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاوضہ یا اجرت پر یہ کام کیا۔ (طبقات کوہاں والی ایک ہزار ناقہ کے علاوہ ساڑھے ۲۸ تو لے سونا تصدق کرنا لکھتے ہیں۔ ابن سعد۔ حصہ اول۔ ص ۲۰۰، ۲۰۱ / محمد رضا۔ محمد رسول اللہ۔ ص ۲۲ / جعفر شیخ عبد الحق محدث بلوی اور ابراہیم سیالکوٹی "بے شمار اونٹ لکھتے ہیں"۔ مدارج سچائی۔ فروغ ابدیت۔ اردو ترجمہ از نصیر حسین۔ ص ۷۲ / نبی کریم صلی اللہ عنہ النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۳۶۹ / سیرت المصطفی۔ جلد اول۔ ص ۷۸۔ یہ وہ موقع علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی۔ ص ۸۸ / ساجد الرحمن۔ سیرت رسول۔ ص ۳۳ / ہے جب حضرت حلیمةؓ سعدیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ملے تھے۔ مہنامہ "محمدث" لاہور۔ رسول مقبول نمبر۔ حصہ اول۔ ص ۸۸۸۔ مضمون جب ملے تو حضرت عبد الملک بن نے یہ اونٹ سونا وغیرہ صدقہ کیا۔ احمد زینی "رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت تاجر" از شریا بتوں (یہ موقف رکھنے دھلان کتھتے ہیں، اس موقع پر بکیاں اور گائیں ذبح کر کے اہل مکہ کی ضیافت کی والے حضرات یہ لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہؓ دوسرے لوگوں کو تو اس کام کا گئی۔ سیرت دھلانیہ۔ ص ۷۷۔ اسی وقت حضرت عبد الملک بن حضرت حلیمةؓ معاوضہ دو اونٹ دیتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چار اونٹ دیتے کو بہت سا انعام و اکرام عطا فرمایا۔ مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۳۶ / شوابہ گئے۔ بعض لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالبؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے النبوت از جائی۔ ص ۲۸ / روضة الاحباب۔ اردو ترجمہ بغوان رسالتکاب از مشورے کے بعد حضرت خدیجہؓ سے یہ مطالبہ کیا تھا اور انہوں نے مان لیا۔ مفتی عزیز الرحمن۔ ص ۲۲ / سیرت دھلانیہ۔ ص ۷۷ / ابراہیم سیالکوٹی۔ سیرت بعض کتھتے ہیں، جب منافع زیادہ ہوا تو خوش ہو کر حضرت خدیجہؓ نے یہ معاوضہ المصطفی۔ جلد اول۔ ص ۷۸) بعض حضرات اسے حضرت خدیجہؓ کی ملازمت دو گناہ کر دیا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ جن قارئین کرام کی کاپسلا نیشنے قرار دیتے ہیں جو "آپ" کو تمام عربوں کی فرمانروائی کے منصب تک

لے گیا۔

کچھ سیرت نگار اس واقعے کو اس طرح کی حصہ داری قرار دیتے ہیں جس میں ایک فریق سرمایہ دار ہوتا ہے۔ پیسہ اس کا لگتا ہے، دوسرا فریق غریب لیکن محنت کار کن ہوتا ہے۔ ایک کا سرمایہ، ایک کی محنت کے اصول پر نفع میں حصہ طے ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق تجارت ہوتی ہے۔ ابن ہشام اور بعض دوسرے ابلیس سیرت شام کو اسی طرح کا واقعہ قرار دیتے ہیں۔ (ابن ہشام۔ سیرت النبی کامل۔ جلد اول۔ اردو ترجمہ از عبد الجلیل صدیقی۔ ص ۲۱۱ / الریقت الحنوم۔ ص ۹۰ / سلیمان ندوی، سید۔ رحمت عالم۔ ص ۱۹ / سیرت الرسول من القرآن۔ ص ۹۱ / محمد میاں، سید۔ سیرت مبارکہ محمد رسول اللہ القرآن اور تاریخ کے آئینہ میں۔ ص ۲۰۲ / محمد میاں، سید۔ سیرت مبارکہ محمد رسول اللہ القرآن اور تاریخ کے آئینہ میں۔ ص ۲۰۲ / حفظ الرحمن۔ نور البصر فی سیرت خیر البشر۔ ص ۳۳ / ابوالحسن علی ندوی۔ نبی رحمت۔ ص ۱۰)

اس موضوع پر واحد سیرت نگار محمد کلیم ارجائیں نظر آتے ہیں جنہوں نے پورے اعتقاد اور تحدی کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ”رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) حضرت خدیجہؓ سے نکاح کے وقت کہ کے ایک مشور تاجر تھے۔ تجارتی امور میں آپؐ کی مہارت کے ساتھ ساتھ آپؐ کی امانت و دیانت کا ہر کوئی معرف تھا۔ عام تاریخی کتابوں سے جو یہ تاثر ابھرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہؓ نے گویا اپنا ملازم یا تاجر تی کارندہ مقرر کیا تھا، بالکل غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خود مختار اور خوش حال تاجر تھے۔ آپؐ نے کسی تاجر کی ملازمت کبھی اختیار نہیں فرمائی۔“ (محمد کلیم ارجائیں۔ سرور عالم کے سفر مبارک۔ ص ۳۳)

اور، ہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی کے

موضوع پر قلم اسی لئے اٹھایا ہے کہ اس سلسلے میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کی گرد کو دھوڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔

کیا حضرت خدیجہؓ معاشی سمارا ہیں؟

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ سیرت النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی کتابوں میں حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی معاشی زندگی کا جو ہیولا بتا ہے، وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک غریب ابن غریب (حضرت عبداللہؓ کے ترکے میں جو چینیں دکھائی دیتی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی کم غریب نہ تھے) صفرنی میں اجرت پر کپکلاں چڑا کر اپنا اور اپنے غریب چچا کا پیٹ پالتے رہے۔ میسر کے ساتھ سفر شام کیا تو معروف اجرت سے زیادہ کا مطالبہ کر کے یا زیادہ منافع ہونے کی وجہ سے طے شدہ اجرت سے دگنے معاوضے کے طور پر چار اونٹ لئے اور بس! ایک آدھ سیرت نگار نے حضرت خدیجہؓ کے مزید مالی تجارت کے ذریعے ایک ایک اونٹ مزید دلو دیا۔ ورنہ، زیادہ تر حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھر کی پہلی اور آخری مکانی وہی چار اونٹ قرار دیتے ہیں جو میسر کے ساتھ سفر شام میں کی گئی تجارت کی اجرت کے طور پر ملتے۔ کیونکہ اس کے بعد لکھا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ کے ساتھ شادی نے ان کے سارے مالی دلدار دور کر دیے اور پھر انھیں کمانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یوں، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہوی کے مال پر گزر بر کرنے لگے۔ اعلانِ بتوت کے بعد ہمارے آج کل کے مولویوں کی طرح ادھر ادھر سے کھانا آ جاتا تو کھائیتے تھے اور آج کل کے پیروں کی طرح ہدیے وصول کر کے گزارا کرتے تھے۔ بھرت مسند کے بعد غنائم کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر مکانی کے کسی اور ذریعے کی ضرورت نہ رہی۔

قارئین مختوم سے انتہا ہے کہ اپنے دل سے پوچھیں کہ اپنے
آتیوں کو کما کر کھانے اور لوگوں کو کھلانے کی ترغیب اور ہدایت دینے والے نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی واقعی یعنی تھی تو کیا آپ کے اسوہ
حنسہ کی پیروی میں ہمیں بھی ہاتھ توڑ کر نہیں بیٹھ رہنا چاہیے۔ مالدار یہاںوں
کے ساتھ شادی کر کے عیش کرنے والے ہمارے اسلامی معاشرے کے اہم ترین
اور نیک ترین افراد کیوں قرار نہ دے دیئے جائیں اور نکھتو خاوندوں کی
معاشرے میں سب سے زیادہ عزت و توقیر کیوں نہ کی جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی کو اس آئینے میں پیش
کرنے والے، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے نامور سیرت لکاریں، اس لیے
آج کا لکھنے والا محفوظ ترین راست یہ تلاش کرتا ہے کہ رہن پہنی باتیں دُھرا تا
رہے۔ اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ محنت کی ضرورت نہیں، تھہزوں تدریکی
حاجت نہیں، تحقیق و تغییر کی سنگاخ گھائیوں سے گزرنے کا تردد نہیں کرنا
پڑتا۔ الفاظ بدل کر، یا ایسی باتوں کو مزید بڑھا چڑھا کر بیان کر کے ایک نئی کتاب کا
مصنف بن جاتا زیادہ آسان ہے۔ اس میں صرف حضور صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
توہین ہی ہوتی ہے تا، سو یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ ان کے ذکر پاک میں اپنی
عقیدت و ارادات کا اظہار کافی ہے، القاب و آداب کے ساتھ حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لینا ہی بہت ہے۔

حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کے تمام معاشی معاملات سیدھے ہونے تھے، اس لیے بطور خاص یہ اہتمام
 کیا گیا کہ اس سے پہلے ان کے پاس کچھ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کی زندگی بھر کی پہلی اور آخری کمائی کے چار اونٹ بھی ہمارے بزرگوں کو یادوں
 رہے اور نکاح کا جو مرباند ہا گیا، وہ بھی ابوطالبؑ سے دلوایا گیا۔ ان مختوم

بزرگوں کو یہ بھی یادوں رہا کہ وہ حضرت ابوطالبؑ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم سے بھی زیادہ غریب اور مغلوق الحال قرار دیتے ہیں۔ برعکس، زرقانی نے
 حضرت ابوطالبؑ کا جو خطبہ نکاح لکھا ہے، اس میں ہے کہ میں نے اپنے مال سے
 میرِ موجل اور میرِ میجل ادا کر دیا ہے۔ اور وہ سائز ہے بارہ اوقیہ سونا ہے۔ (فوق
 بلکہ امی، سید اولاد حیدر۔ اسوہ الرسول۔ جلد دوم۔ ص ۲۹) ”روضۃ الاحباب“
 میں جو خطبہ نقل کیا گیا ہے، اس میں میرمیں اونٹ ہے اور حضرت ابوطالبؑ کے
 الفاظ میں ”میرے مال میں سے“ (روضۃ الاحباب۔ اردو ترجمہ۔ ص ۳۱)

البستہ پیر محمد کرم شاہ الازہری نے ”خاتم ائمۃ جلد اول“ ص ۱۶۲ و دیگر
 کتبؑ کے حوالے سے جو خطبہ ابوطالبؑ دیا ہے، اس میں مرسائز ہے بارہ اوقیہ
 سونا ہے، اور یہ بات تحریر نہیں ہے کہ وہ حضرت ابوطالبؑ کے مال سے ہے۔
 (ضیاءُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جلد دوم۔ ص ۳۳۶)

اگرچہ اس معاملے میں بھی وہ مشهور اختلاف موجود ہے جو سیرت پاک
 کے دوسرے واقعات میں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ (سید جمال حسینی محدث شیرازی
 نے ورقہ بن نوافل کے خطبہ کے حوالے سے کہا ہے کہ انہوں نے چار سو مشقال
 سونا مقرر کیا تھا۔ روضۃ الاحباب۔ ص ۳۱۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے
 سائز ہے بارہ اوقیہ سونا لکھا ہے۔ مارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۷۹۔ ”سیرت
 دھلائیہ“ میں ہے۔ میں اونٹ میر مقرر ہوا۔ بعض نے کہا، سائز ہے بارہ اوقیہ
 سونا مقرر ہوا تھا، بعض نے چار سو دنار بتائے ہیں۔ ص ۳۰۸۔ ابن اثیر بارہ
 اوقیہ چاندی میر بتاتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے۔ اسد
 الغائب۔ جلد اول۔ ص ۱۸۔ ابن ہشام میں جوان اونٹیاں لکھتے ہیں۔ سیرت النبی
 کامل۔ جلد اول۔ ص ۲۲۔ مارج النبوت میں ایک روایت کے مطابق پانچ سو
 مشقال سونا اور ایک روایت کے مطابق میں اونٹ میر مقرر ہوا۔ جلد دوم۔ ص

جمال حسینی نے "روضۃ الاحباب" میں مختلف روایات کی تطبیق یوں کی ہے کہ اس وقت قیمت ۲۰ اوونٹ، برابر چار سو مشقال سوتا، برابر پانچ سورہم ہو گی۔ (ص ۳۲) ایم ذی فاروق ان روایات کو الگ الگ سمجھتے ہیں اور انھیں درست قرار دیتے ہیں۔ "آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے شادی کے وقت سیدہ خدیجہؓ کو معقول مراوا کیا۔ یعنی ہیں اوونٹ اور پانچ سورہم، جوان کے لیے قیمتی سارا بن گئے"۔ (تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - ص ۲۰)

میں عرض یہ کر رہی تھی کہ سیرت کی تمام مشہور اور بنیادی کتب میں نکاح کا مر حضرت ابوطالبؓ نے ادا کر دیا۔ وہ کی بات آئی تو کسی نے لکھا کہ "خدیجہؓ نے اپنی باندیوں سے کہا" دف بجا میں اور کہا اے محمد! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنے چچا سے فرمائے کہ اپنے اوٹوں میں سے ایک کو فزنج کریں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں۔" (روضۃ الاحباب - ص ۳۱) کسی نے اگر یہ ولسمہ چچا کے کھاتے میں نہیں بھی ڈالا ہے تو "سور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زبردستی لیا ہے۔" نکاح کے بعد حضور رسالت مکب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگا تو حضرت خدیجہؓ نے عرض کی، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ چل کر ایک یا دو اوونٹ فزنج کرائیں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ چنانچہ آپؓ نے ایسا ہی کیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا ویسہ تھا۔" (سیرت دحلانیہ - ص ۳۱۰)

نکاح میں ایک اہم مرحلہ بعض بزرگوں کو یہ بھی نظر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا غریب ثابت کیا جا چکا ہے، اس کے بعد آسانی سے ان کا نکاح کرا دینا تو مناسب نہیں۔ شادی کے کپڑوں کا اہتمام کیسے کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس مسئلے کا حل یوں نکالا کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی خدمت پوچھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں

ہتایا کہ شادی کے لیے موزوں کپڑے نہ اُن کے پاس ہیں، نہ حضرت ابوطالبؓ اور ان کے بھائی کے پاس ہیں۔ اس پر حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ حضرت عبد الملکؓ نے سونے کے ہزاروں بار اور کچھ عمدہ کپڑے میرے پرداز کیے تھے اور دیست کی تھی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت پڑے تو ان کے حوالے کر دوں۔ اس طرح سونے کی بھری ہوئی تھی اور فوجوڑے نیس کپڑوں کے، جس میں سے ہر ایک کی قیمت پانچ سو بار تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے۔ (معارج النبوت - جلد دوم - ص ۱۸۵)

اب میں ملا میعنی واعظ کافشی سے یہ تو پوچھ نہیں سکتی کہ جب حضرت عبد الملکؓ کا انتقال ہوا، اس وقت حضرت ابو بکرؓ کی عمر چھ سال تھی۔ پھر یہ واقعہ کیسے پیش آگیا۔ اپنے جوان اور زمہدار بیٹوں کی موجودگی میں یہ امانت چھ سال کے بچے کو کیوں سونپی گئی۔ حضرت ابو بکرؓ نے یہ امانت کے ایس کیوں سنجا لے رکھی۔ اس امانت میں سلے سلاۓ جوڑے کس طرح اور کیوں تھے؟ پھر سونے کے ہزاروں بار اور ساڑھے چار ہزاروں بار کے کپڑے کیا ہوئے؟ کیونکہ دوسرے حضرات کی طرح ملا کافشی بھی ترویج خدیجہؓ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام معاشی مسائل حل ہو جانے کے قابل ہیں۔ لکھتے ہیں۔ "خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خزانوں کے دروازے کھول دیئے اور وہ تمام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک اور ان پر قربان کر دیئے اور کہا، میں نہیں چاہتی کہ امورِ معيشت میں آپ میرے ممنون احسان رہیں۔ یہ تمام مال آپ کی ملکیت ہے اور میں آپ کی ممنون احسان رہوں گی۔" حضرت ابو طالبؓ اس کام سے بت خوش ہوئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکرِ معاش اور ضبطِ مہمات سے مکمل طور پر فراغت ہو گئی۔" (معارج النبوت - جلد دوم - ص ۱۸۸)

ناداری اور خاص طور پر حضرت خدیجہؓ کے ساتھ نکاح سے پہلے آپؐ کی کمزوری مالی
حالت پر بڑا زور دیا ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے آپؐ کے ایک بینہ قول "الفقر و
فخریٰ" (غرضی پر مجھے فخر ہے) کو خوب مشترک کئے آپؐ کی مفروضہ مفلسی و
ناداری کو بھی ایک خوبی بتایا ہے۔ اس نام نہاد "حدیث" کو علامہ ابن تیمیہ اور
ملائی القاری جیسے محدثین نے مخفی مَنْ گھڑت قرار دیا ہے۔ مُلَّا علی القاری لکھتے
ہیں۔ "جہاں تک حدیث "الفقر فخریٰ" اور یہ کہ اس پر آپؐ کے فخر کرنے کا
تعلق ہے، تو یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں جیسا کہ العقولی اور دوسرے معتبر
محدثین (الحافظ) نے وضاحت کی ہے۔" - المرقاۃ۔ جلد ۱۰۔ ص ۲۲۔ یہاں یہ بات
قابل غور ہے کہ قرآن میں مال و دولت کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ "تمارے
اموال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے بڑا سارا (قیاماً) بتایا ہے۔" - النساء: ۵ -
ناداری اور مفلسی کی بابت یہ کہا ہے کہ "شیطان تم سے مفلسی و ناداری کا وعدہ
کرتا ہے۔" - البقرۃ۔ ۳۶۸۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سورتوں میں سے
ایک سورہ میں مال و دولت کو اپنا فضل و انعام قرار دیا ہے۔ "ہم نے تجھے تجھے
وست پیا، پھر ہم نے تجھے خوش حال اور غنی کر دیا۔" - الفتح: ۸۔ اب یہ بات
بہت بعد از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ یہاں آپؐ کے اپنے
اموال اور دولت کے بجائے آپؐ کی زوجہ خدیجہؓ کی دولت کی طرف ہو۔
(ماہنامہ فیض الاسلام راولپنڈی۔ ستمبر ۱۹۹۳۔ ص ۲۵۔ ضیاء الدین کمالی کی
کتاب کا اقتباس۔ ترجمہ از اخترہاشی)

غلام احمد پرویز بھی لکھتے ہیں۔ "عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ آپؐ (صلی
الله علیہ وآلہ وسلم) کی کمی زندگی بڑی عشرت اور تجدیدتی کی تھی لیکن یہ
ورست نہیں۔ قرآن کرم حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو مخاطب کر کے کہتا
ہے کہ "وَوَجَدَ كَعَانِلًا فَأَغْنَى" ۸:۹۳۔ ہم نے تجھے تجھ دست پایا تو غنی

اب اس بات کو آگے چلایا جانے لگا۔ "حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ
سے شادی ہو جانے کے بعد آپؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی فارغ البالی اور
تمول میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔" (خاتون پاکستان۔ رسول نمبر ۱۹۴۳۔ ص ۲۲ -
خلد وحید تمنی کا مضمون) بطور خاص نبیؐ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی
زندگی پر کتاب لکھنے والے ڈاکٹر صاحب نے تو ایک سرفی یہ جھائی ہے۔ "حضرت
خدیجہؓ الکبریؓ رضی اللہ عنہا سے نکاح اور آپؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی
معاشی پر شایتوں کا علاج۔" (نبیؐ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی -
ص ۸۶) "عام الحزن" کا ذکر کرتے ہوئے سرفی جانتے ہیں۔ "آپؐ (صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم) کے دو معاشی سارے چھن گئے۔" (نبیؐ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی معاشی زندگی - ص ۷۰) متن میں انہوں نے حضرت خدیجہؓ کو معاشی
خوشحالی کا اور حضرت ابوطالبؓ کو غیرت مندانہ فقر کا سارا قرار دیا ہے۔ (نبیؐ
کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی - ص ۱۰۸)

سیرت پر کام کرنے والے جن لوگوں کو کچھ احساس ہوا بھی ہے، انھیں
بھی بڑے بڑے نام کچھ کرنے نہیں دیتے۔ پروفیسر خالد علوی نے "بعد از نبوت
کی زندگی" کے حوالے سے کہا۔ "اس ہمہ وقت کام کے باعث ابتدائی رسول
میں وہ پونچی کام آتی رہی جو آپؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بذریعہ تجارت
اکٹھی کی تھی یا حضرت خدیجہؓ کی ملکیت تھی۔" (دو ماہی "اسلامی تعلیم" لاہور۔
جنوری فروری ۱۹۷۳۔ ص ۳۱۔ مضمون "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی و
معاشرتی زندگی" از خالد علوی)

ضیاء الدین کمالی نے اپنی انگریزی کتاب "وی لاست میسٹر وردی
لائسنس سیچ" میں البتہ لکھا ہے۔ "یہ بات کچھ ہٹکتی ہے کہ رسول اکرم (صلی
الله علیہ وآلہ وسلم) کے سیرت نگاروں نے بالعموم آپؐ کی مفروضہ مفلسی اور

سانتے نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی کافر بھی اس قسم کی طعنہ نہیں کرتا تو ہمارے سیرت نگار کس بنیاد پر آپؐ پر یہ الزام لگاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں، جب عورت کا کمانا بھی ضرورت بنتا جا رہا ہے اور ہمارے ماحول میں بھی بہت سی عورتیں شریفانہ گزر اوقات کے لیے ملازمت یا کاروبار کرتی ہیں، یوں شخص محض عورت کی کمائی پر رہے، اسے غنکو کہتے ہیں اور وہ کسی سطح پر عزت نہیں پاسکتا۔ پھر اس زمانے کے عرب میں تمام زمانوں کی عظیم ترین ہستی پر یہ تمثیل تراشنے کی کیا ضرورت ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی کیا یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہے یا اس بات میں حقیقت کی کوئی رمق موجود ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جو حکم دوسروں کو دیتے ہوں، خود اس پر عمل نہ فرماتے ہوں۔ آپؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حیاتِ طیبہ کو تو مسلمانوں کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ایسے میں ہم خطبہ جمعۃ الدواع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشادِ گرامی کو کیوں پیش نظر نہیں رکھتے کہ تم پر یوں کافی ہے۔ ان کی روٹی، کپڑا و ستور کا مطابق تمہارے ذمے ہے۔ (صحیح مسلم شریف۔ کتاب الحج باب حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی روایت کردہ طویل حدیث)

مسنون ابو داؤد میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو کہاں کھائے تو اپنی یوں کو بھی کھلا اور جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہنا۔“ (مسنون ابو داؤد۔ کتاب النکاح۔ باب فی حق المرأة علیها زوجها۔ حدیث نمبر ۳۷۶) اس سے واضح ہے کہ مرد پر عورت کا ننان نفقہ واجب ہے۔ یہ ذمہ داری مرد پر ہے کہ وہ عورت کے اخراجات کا انتظام کرے۔ کسی حدیث پاک میں ایسی کوئی ذمے داری عورت پر نہیں ہے کہ وہ مرد کو کما کر کھلائے۔ پھر یہ کیسے

کر دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی وہ زندگی ایک غنی کی زندگی تھی۔ یعنی ایسی زندگی جس میں آپؐ کو اپنی ضروریات کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہوتا پڑتا تھا۔ (پروین۔ معراج انسانیت۔ ص ۳۶۰)

اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے بعد آپؐ کا معاشی مسئلہ حل ہو گیا ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے تو تجارت پیشہ عرب معاشرے میں آپ کی کوئی عزت و تکریم نہ ہوتی۔ جبکہ اس حقیقت کو بھی تعلیم کرتے ہیں کہ مجرِ اسود کی تنصیب کے موقع پر جو بہت بڑا جھگڑا اٹھا تھا، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطيبِ خاطر ثالث تعلیم کیا گیا اور رب کی طرف سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو "امین" کہہ کر سب قبائل کے سرکردہ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ آپ کا فیصلہ سب کو منظور ہو گا، اور یہی ہوا۔ "امین" کی بحث آگے آئے گی جس سے ظاہر ہو گا کہ "امین" غریب ہوئی نہیں سکتا۔

ہمارے پیشتر سیرت نگار حضرات حضرت خدیجہؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاشی سارا کہہ کر جو کچھ ثابت کر رہے ہیں، وہ کسی معاشرے میں لا اُن عزت نہیں ہوتا۔ اگر نعوذ بالله حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ مختارہ کے ماں پر گزارا کرتے تو معاشرے میں کوئی عزت نہ پا سکتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانِ بیوت فرمایا اور آپؐ کی مخالفت میں قم قم کی باتیں کی جانے لگیں تو کوئی نہ کوئی دشمن اسلام یہ طعنہ ضرور دیتا کہ یوں کی روشنیوں پر گزارا کرنے والا نبی کیسے ہو سکتا ہے۔

پھر کوئی سیرت نگار ایسی کوئی مثال بھی تو سامنے لائے کہ فلاں معزز شخص اس زمانے میں خود کچھ نہیں کھاتا تھا، یوں کی کمائی پر گزر اوقات کرتا تھا، اور کسی طرح کسی حیثیت میں کوئی عزت بھی کھاتا تھا۔ جب ایسی کوئی اور مثال

مکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان پر تو اپنی بیویوں کا نان
نقہ واجب قرار دیا ہوا اور اپنے لیے یہ صورت پسند کر لی ہو کہ بیوی کے مال پر
گزارا کریں۔

بخاری شریف میں حضرت ابو مسعودؓ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد خالص خدا کی رضا مندی کے لیے اپنی بیوی پر
خراج کرے تو وہ خرج کرنا اس کے لیے خیرات کا حکم رکھتا ہے۔ (بخاری بحوالہ
اُسوہ حسنہ۔ حصہ بیوم۔ حقوق العباد۔ از بنت الاسلام۔ ص ۷۳) اس کا مطلب
یہ ہے کہ مرد کا عورت پر رضائیٰ الہی کی نیت سے خرج کرنا خیرات کا ثواب بھی
دلاتا ہے۔ لیکن دیکھنا چاہیے کہ اگر مرد کمانے کے قابل نہ ہو تو کماوہ بیوی کا مرد
پر خرج کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے۔

حضرت زینبؓ بنۃ ابی معاویہ، حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی بیوی
تمیں۔ حضرت عبد اللہ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ حضرت زینبؓ و متکار
تمیں، کما کہ اپنے خاوندوں پر خرج کر دیتا تھیں۔ حضرت زینبؓ نے ایک اور
النصاری عورت کے ساتھ کہ انھیں بھی مسئلہ درپیش تھا، حضرت بلاںؓ کے
ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ گزارش پہنچائی کہ ہم صدقہ کرنا
چاہتی ہیں۔ اگر اجازت ہو تو اپنے خاوندوں پر صدقہ کی رقم خرج کر دیں۔ آقا
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 'اُنھیں دُھراً ثواب ملے گا، ایک قرابت
کا، ایک صدقے کا۔' (اسد الغابہ۔ جلد ۱۰۔ ص ۱۳۱ / میرا الصحابة۔ جلد ۱۱۔ اسوہ
صحابیات از عبد السلام ندوی۔ ص ۲۳۶/۲ / نیاز فتحوری۔ صحابیات۔ ص ۲۲۰ /
طالب الماشی۔ تذکار صحابیات۔ ص ۷۳۷ / ۳۳۸، ۳۳۹)

یعنی اگر مرد عورت پر خرج کرے تو خیرات ہے اور عورت مرد پر خرج
کرے تو صدقہ ہے۔۔۔۔۔ اور 'میرے آقا' حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم اور آپؐ کے اہل بیت کے لیے صدقہ جائز نہیں تھا۔ بہر بن حکیم اپنے
والدِ گرامی کے واسطے سے اپنے دادا سے راوی ہیں کہ رسولِ کرم صلی اللہ علیہ السلام
نے فرمایا، صدقہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے اور نہ ہی آلِ محمد
(صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لیے۔ (الوفا بِ حَوَالِ الْمَصْطَفَى۔ اردو ترجمہ از محمد
اشرف سیالوی۔ ص ۲۳۶) آپؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اپنے خاندان
والوں کے لیے صدقہ حرام قرار دیا تھا۔ (بخاری۔ کتاب الصدقۃ۔ باب ما یذکرنی
صدقۃ النبی) بخاری شریف ہی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت
حسنؓ نے صدقہ کی ایک سکھوڑ اپنے منہ میں رکھ لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا۔ سکھوڑ پھینک دو۔ کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ ہم لوگ
صدقہ نہیں کھاتے۔ (بخاری۔ ایضاً) / راجا رشید محمود۔ حضور صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم اور بچے۔ ص ۳۸ / مہنمہ "صدائے اسلام" پشاور۔ صفر المختصر
(۱۴۰۰ھ۔ ص ۱۸)

جو لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل لوگوں کو
آپؐ کی آمد کی بشارت دیتے تھے، وہ بھی ایک خصوصیت یہ بیان کرتے تھے کہ
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیے اور تحائف تو قبول فرمائیں گے مگر صدقہ
کامال نہیں کھائیں گے۔ (الوفا بِ حَوَالِ الْمَصْطَفَى۔ ص ۳۷)

ابوالوفا علامہ ابن عقیل فرماتے ہیں کہ صدقہ رسالت مائب علیہ افضل
الصلوات پر اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ وہ مرحمت کے قبل سے ہے جو کہ
مسکنت کا اور لوگوں کی دست گمراہ کا مقتنصی ہے، لہذا خانوادہ نبوت کو اس سے
محفوظ کر دیا گیا کہ ان کے ہاتھوں پر کسی کا ہاتھ بلند ہو۔ (الوفا۔ ص ۲۳۶) اس
وضاحت کے پیش نظر اندازہ فرمائیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
حضرت خدیجہ کا دست گمرد کھایا جائے تو کیا صورت بنتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام صدقہ نہیں لیتے تھے اور یہوی کے مال کی ایک حیثیت خاوند کے لیے صدقہ کی ہوتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کا مال استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ تو صدقہ دیا کرتے تھے۔ ”روضۃ الاحباب“ میں ہے۔ ”آپ بہت زیادہ صدقہ دیا کرتے تھے اور صدقہ فطر عید کی نماز سے قبل ادا فرماتے اور مسکین کو دیتے تھے۔“ (رسالہ تاب۔ ص ۳۳۶) ابن قیم جوزی لکھتے ہیں۔ ”آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی ایک زمین وقف کی اور مسلمانوں کے لیے اس کی آمدی صدقہ کر دی تھی۔“ (ابن قیم جوزی۔ اسوہ حسن۔ حدی الرسول کا اردو ترجمہ از عبدالرازق بلح آبادی۔ ص ۱۱۷)

ان حالات میں حضرت خدیجہؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاشی سارا قرار دینا سیرت نگار حضرات کی زیادتی نہیں توکیا ہے۔

تجارت کے اسلامی اصول اور شارعِ اسلام میں اصلاح و اصلاح

جو قوم (توہیں) تجارت یا محنت چھوڑ دیتی ہے، وہ دوسروں کے سارے کی محاج ہو کر رہ جاتی ہیں اور دوسری اقوام ان پر غالب آ کرنا صرف تندب و تمن، معیشت و سیاست پر قابض ہو جاتی ہیں بلکہ مذہب کو بھی دیا دیتی ہیں۔ جیسا کہ ہندوستان ایسے بڑے ملک کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انگریز تجارت کی راہ سے ہی یہاں آ کر قابض ہوا اور ہمیں ذیل و رسوا ہونا پڑا۔ (”فاروق اعظم“ مرتبہ محمد محب اللہ نوری۔ ص ۲۳۔ مضمون ”اسلام میں محنت کی عظمت“ از محمد ارشد)

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشاداتِ عالیہ اور

فرمودا تِ گرامی کے ذریعے اور اپنے عمل کردہ کے ذریعے مسلمانوں کو رزقِ حلال، کسبِ رزق اور تجارت کی راہ دکھائی۔ حضور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ طَلَبَ الْعَلَالِ وَاجْهَتَ عَلَىٰ كُلَّ مُسْلِمٍ یعنی رزقِ حلال کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔ (ماہنامہ ”الجامع“ جامعہ محمدی شریف جنگ۔ جنوری فوری ۱۹۷۹ء۔ ص ۴۳۔ مضمون ”حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اقتصادیات“) پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود رزقِ حلال کی تلاش میں کوئی کوشش نہ کی ہو اور یہوی کے مال پر ہدایا پر اور غنائم پر زندگی گزار دی ہو۔ کوئی ایسی مثال موجود نہیں کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو جو حکم دیا ہو، خودوہ کام نہ کیا ہو۔

ایک حدیث پاک میں ہے، حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ ان مومنوں کو دوست رکھتا ہے جو کوئی پیشہ اختیار کر کے روزی کماتے ہیں۔ (ماہنامہ ”فکر و نظر“ اسلام آباد۔ جولائی اگست ۱۹۷۹ء۔ مضمون ”مفت خوری اور کسبِ حلال“ از میاں محمد سعید جنڈری۔ ص ۵۲) کیا یہ حقیقت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہستی کو اپنا محبوب بنالے جس کے آباؤ اجداد تو تجارت کے پیشے سے مسلک ہوں لیکن وہ خود اپنی زوجہؓ محترمہ کی کمائی پر بیٹھ رہیں۔

حضرت مقدمہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتا ہے، وہی سب سے بہتر کھانے والا ہے۔ (بخاری شریف۔ باب اسریع) اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ توڑ کر بیٹھ رہنے کی بات کرنا کیا ہے؟ سُنْنَنَ أَبْنَيْنَ ماجِهَ تَنْذِيْنَ نَسَانَ مَنْذُرِي مِنْ حَفْرَتِ أَنْسَ بْنِ مَاكَ سَعَ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مغلوک الحال انصاری

ب جانتے ہیں کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین مشہور ہو گئے۔ (طبقاتِ ابن سعد۔ حصہ اول۔ اخبارُ النبی۔ ص ۲۲۵ / محمد میاں، سید۔ سیرت مبارکہ محمد رسول اللہ قرآن اور تاریخ کے آئینہ میں۔ ص ۳۹ / سیرتُ الرسول من القرآن۔ ص ۹۰ / محمد حسین ہیکل۔ حیاتِ محمد۔ ص ۱۳۲ / ۱۳۳، نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۱۱، ص ۲۷ / سیرت سرورِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۱۸ / تاجدارِ حرم۔ ص ۳۹) اس سلسلے میں سیرت نگار حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کے بارے میں کچھ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ ”امین“ کہلانے کے متعلق مختلف حضرات نے مختلف توجیہات پیش کی ہیں۔ مثلاً ابن سعد لکھتے ہیں ”بتوں مردی میں تمام قوم سے افضل“، خلق میں سب سے اچھے، اختلاط و معاشرت میں سب سے شریف تر، باقی کرنے میں سب سے بہتر، حلم و امانت میں سب سے بڑے، تکلم میں سب سے چے، فرش و انتہت میں سب سے دور و نفور تھے۔ نہ کبھی گالی گلوچ یا بد کلامی کرتے دیکھے گئے، نہ کسی سے لڑتے بھگلتے یا کسی پر شبہ کرتے پائے گئے۔ ایسی اچھی اچھی خیر و صلاح کی عادتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں جمع کر دی تھیں کہ قوم نے آپ کا نام ہی ”الامین“ رکھ دیا۔ (طبقاتِ ابن سعد۔ حصہ اول۔ اخبارُ النبی۔ ص ۱۸۵)

آپ محسوس فرمائے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفاتِ کریمہ محمد ابن سعد نے بیان فرمائی ہیں، وہ سب کچھ ہیں لیکن ان میں سے کسی صفت کی بینا پر پورے معاشرے کا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ”امین“ پکارنا کیا معنی۔

کے گھر کا سارا سامان منگوا یا جو ایک چادر اور ایک پیالے پر مشتمل تھا۔ یہ چیزیں دو درہ ہموں میں بک گئیں۔ آپ نے اس قیمت میں ایک کلمائی منگوائی، اس میں اپنے دستِ مبارک سے دستِ ڈالا اور اسے لکھیاں کاٹ کر پیچنے کی ہدایت فرمائی۔ (مسنی ابن ماجہ۔ کتاب التجارات۔ باب بنع الزابدہ / نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۷۔ ص ۱۰۶، ۱۰۷ / ماہنامہ ”فکر و نظر“ اسلام آباد۔ جون ۱۹۷۸۔ مضمون ”اسلام میں معاشرتی بہبود“ از (ڈاکٹر) محمد یوسف گورایہ۔ ص ۲۵، ۲۵ / ماہنامہ ”عرفات“ لاہور۔ مارچ ۱۹۷۷۔ عیدِ میلاد النبی نمبر۔ ص ۲۵۔ مضمون ”پیغمبر دو جماں“۔ محنت کشوں کے والی“ از جی اے حق محمد) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے نام لیواوں کو گھر کا سامان بیچ کر تجارت کی ترغیب دیتے تھے، مفت خوری کے خلاف تھے، دوسروں کو معاشی چدو جہد پر اکساتے تھے، دوسروں کی امداد پر گزر بر کرنے کی ممانعت فرماتے تھے۔ (كتبِ حدیث میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات موجود ہیں جن میں اس طرزِ عمل کی نہادت کی گئی ہے جس سے انسان معاشی تک و دو کی بجائے دوسروں کی امداد پر گزر بر کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ (ماہنامہ ”فکر و نظر“ اسلام آباد۔ مارچ ۱۹۸۳۔ مضمون ”رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی تعلیمات پر ایک نظر“ از ڈاکٹر خالد علوی۔ ص ۵) ۔۔۔۔۔ پھر، ہمارے محترم سیرت نگاروں نے کس دل گردے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گمان کیا کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) خود یہ سب کچھ کرنے کے بجائے مولویوں اور پیروں کی طرح زندگی گزارتے ہوں گے۔ اسلام نے حصولِ معاش کے جو اصول و ضوابط اور جو طریقے ہائے ہیں، حضور شارعِ اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام ان سے مرفیٰ نظر کیے کر سکتے تھے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کیوں مشہور ہوئے؟

موسیو سیریو اپنی کتاب "تاریخ عرب" میں لکھتے ہیں کہ "جب حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی عمر پہنچ سال کی ہوئی تو آپ لوگوں سے خوش خلقی اور حُسنِ سلوک سے پیش آنے کی وجہ سے اس بات کے اہل قرار پائے کہ آپ کو قوم کی طرف سے امین کا لقب دیا جائے۔" (محمد رضا، شیخ محمد رسول اللہ۔ ص ۷۰) مسٹر موری بھی اخلاقی عظمت کو اس لقب کا باعث قرار دیتے ہیں۔ (محمد رضا، شیخ محمد رسول اللہ۔ ص ۷۰)

سید فضل الرحمن کہتے ہیں کہ تجارت میں لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت، راست بازی و حُسنِ معاملہ اور پاکیزہ اخلاق کی شریت دن بدن (روز بروز) بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ لوگ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو الصادق اور الامین کے القاب سے پکارنے لگے۔ (بادی اعظم۔ ص ۹۳)

ڈاکٹر محمد حمید اللہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس مشرکین مکہ کی جو امانتیں تھیں، وہ مناظرا حسن گیلانی کے گمان میں مفارکت کے اصول پر نفع اور تجارتی حصہ داری سے متعلق ہوں گی۔ (سہ ماہی "فقر و نظر" اسلام آباد۔ جولائی ستمبر ۱۹۸۵۔ ص ۵۸) مضمون "حضرت علی بن الی طالب" از ڈاکٹر محمد حمید اللہ ڈاکٹر صاحبزادہ ساجد الرحمن تجارت میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طبعی شرافت و دیانت کو صادق و امین کے ناموں کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ "مکہ کے رو سا اپنی امانتوں کی حفاظتوں کے لیے آپ کے آستان سے زیادہ کسی مقام کو مامون نہیں پاتے تھے۔" (ساجد الرحمن۔ سیرت الرسول۔ ص ۱۲۳)

سوائی لکشمی پرشاد کہتے ہیں۔ "تجارتی معاملات میں آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی راست بازی اور صداقت شیوگی شر کے لوگوں میں ضرب

الش بن گنی تھی۔ ان ہی اوصافِ حسنے سے متاثر ہو کر اس متمنِ قوم نے بھی، جس نے کبھی کسی کی سیادت تسلیم نہیں کی تھی، آپ کو الامین اور الصادق کا خطاب دے کر آپ کی مابہ الامتیاز خوبیوں کو اپنی عقیدت کا خراج ادا کیا۔" (لکشمی پرشاد۔ عرب کا چاند۔ ص ۸۷) اور سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے۔ "قولیش کے لوگ ہمارے حضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خوش معاشری، دیانت و اداری اور ایمانداری پر اتنا بھروسا کرتے تھے کہ بے تال اپنا سرمایہ آپ کے پرداز کر دیتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنا روپیہ پیسہ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے اور آپ کو امین یعنی امانت والا کہتے تھے۔" (سلیمان ندوی، سید رحمتِ عالم۔ ص ۱۹)

آپ محسوس فرماتے ہیں تاکہ ایک سید ہی سی بات کو بعض حضرات نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ بات کمیں سے کمیں جا پہنچتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معنوں میں تو بہت سو شل ہوں گے کہ لوگوں کی مدد فرماتے ہوں گے، لوگوں کے کام آتے ہوں گے، غربیوں سافروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہوں گے۔ لیکن آپ ان معنوں میں سو شل کبھی نہیں رہے کہ لبو و لعب کی محلوں میں شریک ہوئے ہوں، بُت پرستی کی اس وقت کی "نمہبی" تقریبات میں شامل ہوئے ہوں، لڑائی جھنڈا جو عرب قبائل اور ان قبائل کے نامور اور غیر معروف، سب افراد کا تھخص تھا، اس میں کوئی حصہ لیا ہو۔

جو ہستی ایک معاشرے کے "مقدس" کاموں میں، مشہور تقریبات میں، معروف لڑائیوں میں شریک نہ ہو، اگر وہ تجارت میں بھی نام نہ کمائے تو لوگ اس کی طرف کیسے متوجہ ہو سکتے ہیں، لوگ اسے اچھا کیسے سمجھ سکتے ہیں، لوگ اسے اچھے اقتابات و خطابات سے کیوں یاد کریں گے۔

ہوئے بھی اپنی امانتیں واپس نہیں لیتے تھے۔ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اس دشمنی کا یہ نتیجہ بھی نکلا ہو کہ انہوں نے اپنی امانتیں واپس لے لی ہوں۔ وہ تو ہجرت کے بعد حضرت علیؓ نے واپس کی تھیں۔

مجھے بتائیے، کبھی کسی سرمایہ دار نے، تجارت پیش فردنے، ثروت مند آدمی نے اپنی رقم، اپنی قیمتی اشیا کسی ایسے شخص کے پاس امانت کے طور پر رکھوائی ہیں جو غریب ہو، مغلوب الحالی اور عُسرت کا شکار ہو۔ غریب آدمی کی عزت کی جا سکتی ہے، اسے لاکی جھگڑوں میں ٹالٹ یا حکم بنایا جا سکتا ہے، اس کی شرافت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس کے علم و دانش کی وجہ سے اسے صدارت یا امارت کی کسی کرسی پر بخادیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی امانتیں اس کے پرد کر دیں۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ اگر یہ رقم یا یہ قیمتی اشیا غریب آدمی کے ہاں سے چوری ہی ہو گئیں تو ہم کلیم کمال داخل کریں گے، عُسرت زدہ شخص کمال سے یہ ادائی کر سکے گا۔

قیمتی چیزیں، اور مال و دولت اسی کے پرد کی جا سکتی ہے جس کی معاشرے میں اتنی عزت و تکریم ہو کہ اس کے ہاں چوری کا خطہ نہ ہو اور اگر چوری ہو جائے تو امانت دار کی مالی پوزیشن اتنی مضبوط ہو کہ وہ یہ خسارا اپنے پاس سے پورا کر سکتا ہو۔ امانتیں رکھنے والا بھی اگر مالی طور پر اتنا مستحکم نہ ہو کہ کسی کی امانت میں موقع نقصان پورا نہ کر سکے تو وہ امانت بھی نہیں رکھتا۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک صفت ہی اس حقیقت پر بُرہاںِ قاطع کی حیثیت رکھتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کی امیرتین ہستی تھے اور جتنی امانتیں لوگ آپؐ کے پاس رکھواتے تھے، ان سب کی مجموعی مالیت سے زیادہ حیثیت حضور علیہ السلام کی تھی کہ خدا نخواست سب امانتیں بھی ضائع ہو جاتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا

حضور علیہ السلام کے صادق اور امین ہونے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپؐ نے تجارت میں نام کمکیا ہو، اس میں سچائی، راست بازی اور امانت و دیانت کے یوں جھنڈے گاڑے ہوں کہ پورے معاشرے میں ان جیسا کوئی دوسرا دکھائی نہ دیتا ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے لیے جاتے ہوں، لوگ اپنا مال، اپنا پیسہ آپؐ کی تحويل میں دے کر مٹھیت ہو جاتے ہوں گے کہ یہاں نہ پیسہ ضائع ہو گا، نہ سماں تجارت کی خرید و فروخت سے منافع کم ہو گا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ محض تجارت میں حضور علیہ السلام و السلام کی ناموری کے باعث "امین" لقب نہیں پڑا۔ اور امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھوانے کی بات سے بھی کودار کی وضاحت نہیں ہوتی۔

حقیقت یہ ہے کہ اس زمانے میں بینک وغیرہ تو تھے نہیں۔ مکہ والے تجارت پیشہ تھے اور یہ تجارت سال بھر ہوتی بھی نہیں تھی۔ مختلف موقعوں پر مختلف شرپوں میں جو تجارتی منڈیاں لگتی تھیں، ان میں تجارت کی جاتی تھی۔ سال میں دو مرتبہ بیرون ملک تجارتی سفر ہوتے تھے۔ کبھی کبھی سال میں دو سے زیادہ بار بھی ایسا ہوتا ہو گا لیکن جب تاجریں کاروبار میں نہیں لگا ہوتا تھا، ان دونوں اس کی حفاظت بہت بڑا مسئلہ تھا اور اس مسئلے کا واحد حل یہ تھا کہ حضرت عبد الملکؓ کے پوتے، حضرت عبداللہؓ کے فرزندِ بند، حضرت ابوطالبؓ کے بھتیجے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و امانت کی شریت کی وجہ سے سب لوگ اپنا روپیہ، زیور اور قیمتی اشیاء تجارت آپؐ کے پاس امانت رکھوادیتے ہوں گے۔

اس سلسلے میں اہل مکہ کا، اور ہو سکتا ہے کہ مکہ کے باہر کے تاجریں کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اتنا پختہ تھا کہ جان کے دشمن ہوتے

نقضان پورا کر سکتے تھے۔

دوسرے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال تجارت لے جاتے تھے

شام گئے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت سنی۔ واپس آکر پھر اکیلے یمن میں تجارت کے لیے گئے اور پانچ میینے وہاں قیام کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی ابوسفیان کی زبان میں لکھتے ہیں۔ ”پھر میں مکہ مکرمہ آیا۔ لوگ میرے پاس آتے، سلام کرتے اور مجھ سے اپنے اموال کے بارے میں دریافت کرتے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، سلام کیا، مرحا کہا اور مجھ سے سفر کا حال اور میری قیام گاہ کے بارے میں دریافت کیا اور یہ کہ تم کہاں تھے۔ اپنے مال کے بارے میں مجھ سے کچھ دریافت نہیں کیا اور کھڑے ہو گئے۔“ ابوسفیان کہتے ہیں۔ میں نے ہند سے کہا، بخدا مجھے ان پر تعجب ہوتا ہے۔ قریش میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ جس کامال میرے پاس ہو اور اس نے اپنے مال کے بارے میں مجھ سے دریافت نہ کیا ہو لیکن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھ سے اپنے مال کے بارے میں کچھ دریافت نہیں کیا۔ (المحائف الکبریٰ۔ جلد اول۔ ص ۱۸۸)

امام عبدالرحمن ابن جوزی نے ”الوفا پاحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم“ میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ (الوفا۔ ص ۶۸، ۶۹) ابن خلدون نے ”تاریخ“ میں بشارت کا ذکر کیا ہے، یہ واقعہ بیان نہیں کیا۔ (تاریخ ابن خلدون۔ حصہ اول (العرب قبل الاسلام وعمد رسالت) اردو ترجمہ از ذاکر شیخ عنایت اللہ۔ ص ۲۸۸)

قیس بن سائب سے روایت ہے جسے کاروبار تجارت میں آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سماجی کوئی نہ پایا۔ اگر ہم ان کا سامان لے کر جاتے اور واپسی پر وہ ہمارا استقبال کرتے، صرف ہماری خیر و عافیت پوچھتے اور واپس چلے جاتے اور بعد میں حساب دینے پر قطعاً ”نکرار و جلت نہ

یہ بات تو سیرت طیبہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرہ اور خریبہ کے ساتھ حضرت خدیجہؓ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر شام کے سفر پر گئے۔ کچھ مزید اسفراء تجارت کا ذکر ادھر ادھر بکھرا ہوا ملتا ہے لیکن اس سے جو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تجارت کے سفروں پر جاتے رہے اور اپنا اور دوسروں کا سامان تجارت لے جاتے رہے، یہ پوری طرح درست نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی حیات پاک میں کسی موقع پر بھی اپنے تجارتی پیشے سے صرف نظر نہیں کیا۔ بھی خود بھی تشریف لے گئے لیکن کبھی دوسرے تجارتی کاروانوں کے ساتھ اپنا سامان تجارت بھیج دیتے تھے۔ اور اعلانِ بوت کے بعد تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کم سے کم کسی تجارتی سفر پر گئے ہیں اور اس کو تبلیغ اسلام کے ذریعے کے طور پر بھی استعمال کیا ہے۔ مدینہ کریمہ تشریف لے جانے کے بعد تو مملکت کے امور انجام دینے میں آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اتنے مصروف ہوتے تھے کہ تجارت کی طرف یوں متوجہ ہوئی نہیں سکتے تھے جتنی توجہ اس کے لیے درکار ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کے امور تجارت دوسروں کے پرورد ہوتے تھے۔ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کہتے ہیں۔ ”آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنا مال تجارت، دساور کو جانے والے کاروان تجارت کے پرورد بھی کر دیا کرتے تھے۔“ (نصیر احمد ناصر، ڈاکٹر۔ پیغمبر اعظم و آخر۔ ص ۲۲)

ابوسفیان بن حرب، امیہ بن ابی الصلت کے ساتھ تجارت کے سفر کو

تاجر کے پر اپنا سامان کر دیتے۔ (محمد کلیم ارائیں۔ سورہ عالم کے سفر مبارک۔ ص ۳۳)

تاریخ و سیر کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی کے بارے میں متفق روایہ رکھا گیا ہے، اس لیے اس قسم کے واقعات کا ذکر نہیں ملتا۔ پھر بھی اکاؤنٹ کا واقعات سے صورت حال سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے، اگر کوئی واقعی سمجھنا چاہتا ہو۔ ابوسفیان اور قیس بن سائب کے بیان کردہ ان واقعات کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سامان تجارت و سروں کے ہاتھ یزرون ملک یا ملکی منڈیوں میں بھجوائے تھے۔ دوسرے یہ کہ اتنے خوشحال تھے کہ آپ کو اپنے مال کے بارے میں یا اس کے ذریعے ہونے والے منافع کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی جلدی نہیں ہوتی تھی۔ تیسرا یہ کہ یہی طریقہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے زندگی بھر اختیار فرمایا کہ جو لوگ آپ کا مال لاتے لے جاتے تھے، ان سے منافع وغیرہ کے بارے میں استفسار نہیں فرماتے تھے۔ اور مدنی زندگی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اس قسم کا سوال پوچھا ہی نہیں۔ کبھی کبھار کوئی چیز خرید فرمانا ہوتی یا کسی حاجت مند، مغلوب الحال، پریشان حال، مسافریا اور کسی ضرورت مند کو کچھ دنباہوتا تو اپنے کسی شریک تجارت سے دلو دیتے تھے۔ حساب کتاب رکھنا آپ کے شریک تجارت افراد ہی کی ذمہ داری ہوتی تھی۔

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض چیزوں کا معاوضہ دوسروں سے کیوں

دلواتے تھے

کرتے۔ اس کے برخلاف اگر خود ہمارا سامان لے کر جاتے تو اپسی میں جب تک پائی پائی باق (کا حساب بے باق) نہ کر دیتے، مگر تک نہ جاتے۔ (سورہ عالم کے سفر مبارک۔ ص ۳۳)

اسی بات کو سوای لکشم پرشاد اپنے انداز میں یوں تحریر کرتے ہیں۔

”قیس بن صائب (سائب) کے ساتھ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے شرکت فرمائی اور مال تجارت فروخت کرنے کے لیے یمن تشریف لے گئے۔ واپسی پر آپ نے حساب کر کے تمام منافع کا نصف قیس بن سائب کو دے دیا۔ دوسری مرتبہ قیس بن مصائب (سائب) یمن میں مال تجارت فروخت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ واپسی پر آپ (رضی اللہ عنہ) نے حساب کر کے منافع کی رقم کا نصف حصہ حضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بعد میں حضرت صاحب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو معلوم ہوا کہ قیس بن سائب نے حساب میں غلطی کھائی ہے اور آپ کے حصہ میں کچھ رقم زیادہ آگئی ہے۔ آپ بے چین ہو گئے اور جب آپ اپنے شریک تجارت کو بلا کر زائد رقم واپس نہ کر دی، آپ کو چین نہ آیا۔“ (لکشم پرشاد۔ عرب کا چاند۔ ص ۱۰۰)

محمد کلیم ارائیں تجارتی کارواؤں کے بارے میں رقم طراز ہیں۔ ”اس زمانے میں کاروائیں تجارت کا کاروبار مشترکہ سرمایہ کے اصول پر ہوتا تھا کیونکہ سفر کے راستے دشوار گزار اور پر خطر تھے۔ سفر کے اخراجات بہت گراں تھے۔ کسی تاجر کے لیے تھا سامان تجارت لے کر سفر پر روانہ ہونا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ کئی کئی لوگ مل کر نکلتے تھے اور ہر شریک تجارت اپنے علاوہ اپنے دوست احباب وغیرہ کا سامان، نصف منافع میں شرکت یا کسی ایسی ہی شرط پر ساتھ لیتا۔“ ... آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کبھی کبھار اپنے دوستوں اور جان پچان والوں کا سامان لے کر جاتے اور کبھی خود نہ جاتے تو کسی دوسرے بھروسے کے

قیمت سے لوں گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ”نور بخش توکلی۔ سیرت رسول علی۔ ص ۱۰۰) شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں۔ ”حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس اونٹ کو نوسورہ ہم میں خرید لیا۔“ (مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ اردو ترجمہ از مفتی غلام میمن الدین نبی۔ ص ۹۶)

جب بھرت کے اہم موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز ترین دوست (اور غار و قبر و حشر کے رفق) سے اونٹی لی تو اس کی قیمت ادا کی۔ قیمت بھی یوں ادا فرمائی کہ حضرت ابو بکرؓ نے دو اونٹ چار سو درہم میں یا آٹھ سو درہم میں لیے تھے۔ (مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۹۶) ان میں ایک اونٹی قصوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدی ”نو سو درہم میں۔

اس کا ایک ہی معنی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شریک تجارت کے پاس آپؐ کی رقم ہوتی تھی تو آپؐ اسے صرف حکم دیتے تھے کہ فلاں چیز میرے لیے خرید دو۔ حساب خود آپؐ کے شریک تجارت رکھتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تجارتی رقم کسی شریک تجارت کے پاس نہیں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نقدر قدم دے کر چیز خرید فرماتے تھے۔

لیکن ہمارے محترم سیرت نگاروں نے کوشش یہ کی ہے کہ کہیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر رثوت مند نظر آتے بھی ہوں تو کھیچ تان کر اس کی ایسی توجیہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے جس سے یہ تاثر زائل ہو جائے مثلاً ابن اثیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرت کی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں اور ہمارا خاندان کے میں ہی رہ گیا تھا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے زید بن حارثہ اور اپنے مولیٰ ابو رافع کو دو اونٹ اور پانچ

حضرت بلالؓ ابتداءً اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اسلام کے لئے ان پر سخت ظلم ہوئے، ایذا میں دی گئیں۔ شریڑ کے ان کو جانور کی طرح لے پھرتے تھے اور یہ ”احد احمد“ کے نعرے لگاتے تھے۔ ایک روز حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ان کو سخت ایذا دی جاتی ہے۔ ابو بکر صدیقؓ سے جا کر فرمایا، مجھے بلالؓ خرید دو۔ حضرت عباسؓ کے ساتھ جا کر انہوں نے بلالؓ کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ (اطہر محمود۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ فام رفتا۔ ص ۲۵) بعض سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے حضرت بلالؓ کو خریدا اور آزاد کر دیا۔ لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ صدیقؓ کو حکم دیا تھا کہ مجھے بلالؓ خرید دو، تو اس کا صاف صاف معنی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جو پیسے تجارت کے ضمن میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس تھے، اس رقم سے حضرت بلالؓ کو خریدنے اور آزاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جو تاثر ہمارے محترم سیرت نگار ایسے واقعات سے پیدا کرنے کی سعی کرتے ہیں، اسے حق مان لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکرؓ کے مال پر تصرُّف کو جائز سمجھتے تھے اور جیسے چاہتے تھے، استعمال فرماتے تھے تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے مطابق بھی نہیں ہے اور اس کے خلاف ایک مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ بھرت کے موقع پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اونٹی قصوی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خریدی تھی۔

علامہ نور بخش توکلی لکھتے ہیں۔ ”حضرت صدیقؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) میرا باپ آپ پر قربان۔ آپ ان دو اونٹیوں میں سے ایک پسند فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں

غارِ حرامیں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں تخت فرمایا کرتے تھے۔” (نقوش رسول نمبر۔ جلد ۲۔ ص ۳۷۶) کیا اس سے ہم یہ تأثیر دنیا چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعموز باللہ گناہ کے لوث سے پاک نہیں تھے اور غارِ حرامیں جا کر گناہوں سے دور رہنے کی مشق فرمایا کرتے تھے۔

ہمارے نامور سیرت نگار یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہؓ سے شادی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاشی مسائل تو باتی نہیں رہے تھے۔ اس معاشی فراغت نے انھیں غور و فکر پر اکسلیا اور آپؐ تلاشِ حق کے لیے غارِ حرامیں تشریف لے جانے لگے۔

ابنِ ہشام اور طبری کی روایت کے مطابق ابنِ اسحاق اور عبد اللہ بن زبیر نے عبید بن عمیر اللیثی سے نقل کیا ہے کہ آپؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہر سال ایک مینا حرامیں گزارتے۔ (سیرت سرورِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۱۳۲۔ متن و حاشیہ) ”روضۃ الاحباب“ میں بھی ہے کہ آپؐ کی یہ عادتِ شریفہ تھی کہ سال میں ایک بار کہ سے باہر آتے اور غارِ حرامیں خلوت گزیں ہوتے اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوتے اور بعد ایک ماہ کے، کہ میں آتے۔” (رسالہ تائب۔ ص ۳۷) سلمان منصور پوری لکھتے ہیں۔ ”جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتے، شریں نہ آیا کرتے۔“ (سلمان منصور پوری۔ رحمت للعالمین۔ جلد اول۔ ص ۷۲) ”الریقت الحجوم“ میں ہے۔ ”آپؐ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے۔“ (الریقت الحجوم۔ ص ۱۱۲) علامہ جلال الدین سیوطی کا کہتا ہے کہ ”چند روز کے خور دنوں کا سامان لے کر غارِ حرامیں گوشہ نشین ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔“ (الحمدانک البری۔ جلد اول۔ ص ۱۷۱)

سید امیر علی لکھتے ہیں کہ بعض اوقات مع اہل دعیال اور بعض اوقات

سودرہم دے کر روانہ فرمایا کہ انھیں لے آئیں۔ (اُسد الغابہ۔ جلد ۱۰۔ ص ۲۹۹) نیازِ فتحوری اسے ہضم نہ کر سکے اور انہوں نے لکھا کہ ”یہ رقم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ سے فراہمی ضروریات کے لیے حاصل کی تھی۔“ (نیازِ فتح پوری۔ صحابیات۔ ص ۳۹)

نیازِ فتح پوری کی اس تحریر کا کوئی جواز نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بھرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ کی دوسرا یا چار سودرہم کی خریدی ہوئی اونٹی نو سودرہم میں خرید فرمائتے ہیں تو پچھوں کو منگوانے کے لیے پانچ سودرہم مزید بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا کیا کیجئے کہ سیرت پر قلم اخھانے والے مکرم حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی رقم دیکھ نہیں سکتے۔

غارِ حرامیں قیام کی وجہ۔۔۔ تخت یا رہبانیت

سب لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ (الحمدانک البری۔ جلد اول۔ ص ۱۷۱) / سیرت سرورِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۱۳۱ / روضۃ الاحباب۔ اردو ترجمہ بعنوان رسالہ تائب۔ ص ۳۷ / سلمان منصور پوری۔ رحمۃ للعالمین۔ جلد اول۔ ص ۳۶ / الریقت الحجوم۔ ص ۱۱۲) اور آپؐ پانی اور ستو لے کر غارِ حرامیں چلے جاتے تھے۔ (سلمان منصور پوری۔ رحمۃ للعالمین۔ جلد اول۔ ص ۳۶، ۳۷) اسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ”دورِ تخت“ بھی کہا جاتا ہے۔ (نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۱۱۔ ص ۱۲۱) / سیرت سرورِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۱۳۲ (حاشیہ) ”تخت (تخت: گناہ سے بچنے بچانے) کا شوق پیدا ہو گیا اور آپؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی کئی راتوں کا تو شے لے کر

اکیلے کوہ حرا پر ایک غار میں چلے جاتے۔ (امیر علی، سید۔ سورِ کائنات۔ ص ۳۴)

صفی الرحمن مبارکپوری کا کہنا ہے کہ حضرت خدیجہؓ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جاتیں اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتیں۔ (الرجیح الحنوم۔ ص ۲۲) جمال حسینی کا خیال ہے کہ حضرت خدیجہؓ ساتھ نہیں جاتی تھیں بلکہ جب اہل خانہ کا شوق ملاقات غائب آتا تو آپؓ مگر بھی واپس آ جاتے، خدیجہؓ کو دیکھتے اور زادروہ لے کر چلے جاتے۔ (رسالتِ اکابر۔ ص ۲۷)

سیرت کی کتابوں میں تأشیحی دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سلم کی معاشی کفالت کی ذمہ دار حضرت خدیجہؓ تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان خوردنو ش ختم ہو جاتا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام غارِ حراء سے واپس آ کر سامان لے جاتے۔ "الحسانص" میں ہے۔ "پھر حضرت خدیجہؓ کے پاس آ کر اتنا ہی خوردنو ش کا سامان لے جاتے"۔ (الحسانص الکبری۔ جلد اول۔ ص ۱۷۱) مولانا مودودی لکھتے ہیں۔ "آپؓ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہؓ کے پاس آتے اور وہ مزید چند روز کے لیے سامان آپؓ کے لیے صبیحاً کر دیتی تھیں"۔ (سیرت سورِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۳۲)

مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا اور آپؓ حضرت خدیجہؓ کے مال پر گزر برس فرماتے تھے اور اسی حالت میں غارِ حراء میں مینا مینا قیام فرماتے تھے تو لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پر رہبانتیت کا الزام تراش رہے ہیں جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں اعلانِ نبوت سے پسلے بھی اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا نہیں ہے اور کسی پہاڑ کی چوٹی پر واقع غار میں بیٹھ کر عبادت یا غور و فکر کرتا ہے تو وہ اسلام کی

تعلیمات کے حوالے سے کوئی پسندیدہ عمل نہیں کرتا۔ چہ جائیکہ ہم یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کریں۔

حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان تجارت آپؓ کے شریک تجارت حضرات لے جاتے تھے اور اس کا منافع آپؓ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا تھا جسے سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتے رہتے تھے۔

ابن اسحاق، ابن ہشام، طبری کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حراء میں قیام کے دنوں میں مسکینوں کو کثرت سے کھانا کھلاتے تھے۔ (سیرت سورِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۳۲۔ حاشیہ) "الرجیح الحنوم" میں بھی یہی بات نقل کی گئی ہے کہ "آپؓ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے۔ آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے"۔ (الرجیح الحنوم۔ ص ۲۲) سید امیر علی، ابن ہشام، ابن اثیر اور ابو الفدا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ "آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اکثر ماہ رمضان غارِ حراء میں عبادت میں گزارا کرتے تھے اور غریبوں کی امداد اور مسافرانِ صحرا کی دھنگیری میں صرف کیا کرتے"۔ (سورِ کائنات۔ ص ۳۱)

"آنے جانے والے مسکینوں کی امداد" اور مسافرانِ صحرا کی دھنگیری "تو خیر لطیفہ ہے کیونکہ غارِ حراء جیل نور کی چوٹی پر واقع ہے جہاں آنے جانے کا تردد کوئی نہیں کرتا ہو گا اور "مسافرانِ صحرا" کا وہاں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی گزر گاہ نہیں ہے، اس لیے یہ الفاظ تو کلی پہنچنے لگانے کی کوشش معلوم ہوتے ہیں۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داد دہش، لطف و عطا، بخشش و جدود و کرم اور عنایاتِ کریمہ کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ جن دنوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غارِ حراء میں قیام فرماتے ہوں، مسکینوں اور

مستحقین حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الطاف و اکرام اور جُود و سخا سے استفادے کے لیے یہاں بھی آجاتے ہوں۔ لیکن یہ مال حضرت خدیجہؓ کا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ہوتا تھا۔

نزوں وحی کے وقت شریک حیات کی گواہی

نزوں وحی کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حالت کے متعلق جو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے آن پڑھ ہونے کا اعلان کیا، پھر پڑھنے بھی لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ طاری ہو گئی، اُمُّ المؤمنین حضرت خدیجہؓ الکبریؓ نے آپؐ کو تسلی کے لئے ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ایک ورق نے کتابِ ہستی کے سرتائے کو تباہ کر دہنی ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیلی بحث "سیرت پاک" کی تیسرا جلد میں آئے گی۔ فی الواقع حضرت خدیجہؓ کے ان الفاظ کے بارے میں گفتگو مطلوب ہے جو انہوں نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف میں ادا کیے، اس میں فقیروں کی دعکتی اور یہاں کی خدمت کا ذکر بہت نمایاں ہے (سے ماہی "اسلامی تعلیم" لاہور۔ جنوری فروری ۱۹۷۳ء۔ مضمون "آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی معاشری و معاشرتی زندگی" ص ۲۰)

جالِ حسینی لکھتے ہیں، حضرت خدیجہؓ الکبریؓ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی رحمی فرماتے ہیں، عیال کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کب کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، مصیبت زدوں کی امداد کرتے ہیں۔ (رسالہت‌اب۔ ترجمہ "روضۃ الاحباب"۔ ص ۳۹) حاشیے میں مفتی عزیز الرحمن لکھتے ہیں۔ "یہ تفاصیل بخاری، مسلم اور تفسیر ابن کثیر میں

موجود ہیں۔ حدیث میں ہے کما کر کھلاتے ہیں... اخ"۔ معلوم ہوا کہ معاش کے ذریعے پرورش عیال، غریا پوری، مہمان نوازی کرنا انتہائی اعلیٰ وصف ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا اضالع نہیں کرتا جس سے ثابت ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کی دینداری ہے۔" (رسالہت‌اب۔ ص ۳۹۔ حاشیہ) شریح مواہب اور علامہ تھانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہؓ نے فرمایا، آپ مہمان نواز ہیں، مج بولتے ہیں، امانت دار ہیں، مصیبت زدوں کی امداد کرتے ہیں، مسافروں اور تیموروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ (رسالہت‌اب۔ ص ۳۹)

شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے الفاظ ہیں۔ "آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) صلی رحمی فرماتے، عیال کا بوجھ اٹھاتے، ریاضت و مجاہدہ کرتے، مہمان نوازی فرماتے، بیکسوں اور مجبوروں کی دعکتی کرتے، محتاجوں اور غریبوں کے ساتھ بھلائی کرتے، لوگوں کے ساتھ حُسن اخلاق سے پیش آتے، لوگوں کو سچائی میں ان کی مدد اور ان کی بُرائی سے حذر فرماتے ہیں، تیموروں کو پناہ دیتے، مج بولتے اور امانتیں ادا فرماتے ہیں"۔ (مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ اردو ترجمہ۔ ص ۵۰)

قریبوں کے ساتھ سیکلی کرنے اور مہمانوں کی پذیرائی کرنے کی بات جعفر سبحانی بھی دُھراتے ہیں (فروع ابدعت۔ اردو ترجمہ از فسیر حسین۔ ص ۱۵۱) دیگر سیرت نگاروں نے بھی کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے (محمد رضا، شیخ۔ محمد رسول اللہ۔ ص ۱۰۶ / مودودی، ابوالاعلیٰ۔ سیرت سرورِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۱۳۳ / صفائی الرحمن مبارکبوری۔ الریقت الحنوم۔ ص ۱۱۹)

محمد ابراہیم میر سالکوئی نے حضرت خدیجہؓ کے ان تو میسني فقرات کے بارے میں لکھا کہ "حضرت خدیجہؓ نے آنحضرت صلم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے خصائیں اور اخلاقی فائدے کا مرقع کھیج دیا ہے جو قبل از نبوت تھے اور حضرت خدیجہؓ کی یہ شہادت دنیا جہان کی شہادتوں سے زیادہ وزن دار ہے کیونکہ

شخص میں نہیں ہو سکتیں۔ جو خاص بات سیدہ خاتون نے ارشاد فرمائی، وہ یہ ہے کہ کسب کرتے ہیں۔ اس سے ہماری کتابوں میں بار بار، بلکہ ہر بار دھراہی گئی اس بات کی تغییر تو ہو ہی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہؓ کے مال پر گزارا کر رہے تھے۔

عیال کا بوجھ اٹھانے والے

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی کمائی کے ذریعے عیال کو پالنا اور ان کا بوجھ اٹھانا بھی یہی معنی رکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں یہ تاثر دینا سیرت نگار حضرات کی زیادتی ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کرتے تھے۔ عیال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پندرہ سالہ ازدواجی حیاتِ مبارکہ کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کے بعد آخر تک یہ ذمہ داریاں بڑھتی ہی گئیں۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک کے چالیس سال میں آپؐ کے زیرِ سایہ جو شخصیتیں پل رہی تھیں، ان میں حضرت قاسم (سیرت احمد مجتبی۔ جلد اول۔ ص ۱۳۳ / انوار محمدیہ۔ ص ۱۹۲، ۲۳۲ / الوفا۔ ص ۲۸۹) حضرت عبد اللہ یا طیبؓ، مطیب اور طاہرؓ مطیر (مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۷۶۷ / سیرت محمدیہ۔ جلد دوم۔ ص ۲۳۱) حضرت زینبؓ (اسد الغابہ۔ جلد ۱۰۔ ص ۳۶ / نیاز فتح پوری۔ صحابیات۔ ص ۱۳۳ / تذکار صحابیات۔ ص ۱۱۲ / غزویات نبوی۔ ص ۲۷ / رحمان علی۔ الشاہد۔ ص ۲۹ / سیرت الصحابة۔ جلد ششم۔ ص ۹۵ / اسوہ الرسول۔ جلد دوم۔ ص ۳۱۹ / حیات محمدؐ۔ ص ۳۳۵ / سیرت النبی کامل مرتبہ ابن ہشام۔ جلد اول۔ ص ۵۵۹) حضرت رقیہؓ (تذکار صحابیات۔ ص ۱۲۲ / حیات الصحابة۔ جلد اول۔ ص ۴۲ / اسد الغابہ۔ جلد ۱۰۔ ص ۱۱۳، ۳۳۵ / صحابیات۔ ص ۲۷) حضرت اُمّ

آپؐ آپؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زوجہ مطیرہ ہیں اور اس وقت تک برابر پندرہ سال سے آپؐ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ آپؐ کی خصلتوں اور عادتوں سے پوری طرح واقف ہیں اور طبعی اور عارضی حالتوں میں امتیاز کر سکتی ہیں۔ اس معنی میں آنحضرت صلم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا یہ زدیں قول ہے۔ **خَيْرٌ كُمْ خَيْرٌ كُمْ لَا هُلْكَةٌ (الحدث)** یعنی تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال سے نیک سلوک کرتا ہے کیونکہ اہل و عیال میں زندگی بے تکلف ہوتی ہے اور احباب و اقرباء سے سلوک کرنے میں تکلف یا مصلحت و قبی کا تن گزر سکتا ہے۔ پس اہل و عیال کی شادت سے اصلی خصلتوں اور عارضی حالتوں میں امتیاز ہو سکتا ہے۔ اس مقام پر آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جو اخلاقی محسن بیان کیے گئے ہیں۔ ان کی فلسفیانہ تنویج و تقيیم کے متعلق خاتمه الحفاظ، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں :

”حضرت خدیجہؓ نے استقراء سے مکارِ اخلاق کے اصول بیان کر دیے ہیں۔ کیونکہ احسان یا تو اپنے اقارب پر ہوتا ہے یا اجنیوں پر۔ اور یا بدن سے ہوتا ہے یا مال سے اور یا اس شخص پر ہوتا ہے جو اپنے معاملات میں خود مستغل ہوتا ہے۔ یا اس پر جو خود مستغل نہیں ہوتا (بلکہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے) اور حضرت خدیجہؓ نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جو جو اوصاف بیان کیے ہیں۔ وہ سب کے سب مجموعہ اس بیان میں موجود ہیں۔“ سیحان اللہ (فتح الباری دہلوی جزء اول۔ صفحہ ۳۳) (ابراهیم سیالکوئی۔ سیرت المصطفی۔ جلد دوم۔ ص ۲۲۵)

سب اُمیتیوں کی معزز و مکرم مال، سیدہ خدیجہؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے پندرہ برسوں میں جو خصوصیات نظر آئیں، ان کا ذکر انھوں نے فرمادیا۔ ان میں زیادہ تر خصوصیات ایسی ہیں جو کسی مظلوم کا الحال

کلثوم[ؑ] (رہبرِ کامل)۔ ص ۲۶ / ابن جوزی، عبدالرحمن، النبی الاطمیر۔ ص ۸۶ / شہناز کوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۷۔ ص ۲۰۲ / حیاتِ رسالتاً۔ ص ۸۰ / شہناز کوش۔ حیاتِ طبیبہ میں پیر کے دن کی اہمیت۔ ص ۱۵۲، ۱۵۳ (۱۵۲) حضرت فاطمۃ الزهراء[ؑ] (صحابیات)۔ ص ۱۳۵ / نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۷۔ ص ۲۰۶ / سرپائیے اقدس۔ ص ۲۷ - ۲۳۹ / نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۱۔ ص ۵۵۶ / شرف النبی۔ ص ۳۷ / مختصر بیت الرسول۔ ص ۳۵ / الوفا۔ ص ۸۰۳ / باڈلے۔ الرسول۔ ص ۳۱۰ / اسد الغابہ۔ جلد ۱۰۔ ص ۲۰۹ / شبلی۔ سیرتُ النبی۔ جلد ۷۔ ص ۱۱ / الرجیق الحنوم۔ ص ۲۳۹، ۲۴۰ / محمد عابد۔ رحمت للعالمین۔ ص ۳۷۳ (۳۷۳) حضرت امامہ بنت ابوالعاص، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی (اسد الغابہ)۔ جلد ۱۱۔ ص ۲۸ / اسد الغابہ۔ جلد ۱۰۔ ص ۳۶، ۳۷ / راجا رشید محمود۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بچے۔ ص ۳۲ / خطبات جمعہ مطبوعہ وزارتِ مذہبی امور۔ ص ۳ /صحابیات۔ ص ۲۹ (۲۹) حضرت ام کلثوم بنتِ علی (اسد الغابہ)۔ جلد ۱۰۔ ص ۲۲۵ / طالب ہاشمی۔ سیرتِ قاطلة الزهراء۔ ص ۲۷ / محمد صدیق کوکھر۔ امت کی شزادیاں۔ ص ۱۳۶ / اسد الغابہ۔ جلد ۷۔ ص ۵۵، ۵۶ (۵۶) حضرت زینب بنت علی (راجا رشید محمود۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بچے۔ ص ۲۳ / ماہنامہ "پیارِ عمل" لاہور۔ شریکتہ الحسین نمبر۔ جون ۱۹۶۶۔ ص ۲۳ / تذکارِصحابیات۔ ص ۳۹۲ / نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۲۔ ص ۱۹۸، ۱۹۹ (۱۹۸، ۱۹۹) نواز رومانی۔ جرنیل صحابہ۔ ص ۲۳۳ / محمد احمد باشمیل۔ غزوہ موت۔ ص ۳۲۶ (۳۲۶) حضرت علی بن ابوطالب (نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۱۔ ص ۵۳۱ / شہناز کوش۔ حیاتِ طبیبہ میں پیر کے دن کی اہمیت۔ ص ۲۳۲ / حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بچے۔ ص ۲۸ / نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۱۱۔ ص ۲۰، ۲۱، ۲۲ (۲۰، ۲۱، ۲۲) ماهنامہ "نظام الشاعر" دہلی۔ رسول نمبر۔ ۱۹۲۹۔ مضمون از عبدالرزاق ملیح آبادی) حضرت ایکن بن عبید جبشی (اظہر محمود۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ فام رفتا۔ ص ۵۳ / شہناز کوش۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ ص ۱۸۹ (۱۸۹، ۱۹۹) عیال میں ان بچوں کے علاوہ جو چالیس برس کی عمر مبارک تک آپ

زیبیر بن عوام (شہناز کوش)۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ دار خواتین۔ ص ۵۸، ۵۹ / طالب ہاشمی۔ شیخ رسالت کے تیس پروانے۔ ص ۳۶ / سیرا الصحابة۔ جلد دوم۔ مہاجرین حصہ اول۔ ص ۸۲ / تذکارِصحابیات۔ ص ۲۶ / اسد الغابہ۔ جلد ۱۰۔ ص ۱۹۱ / سیرا الصحابة۔ جلد ۶۔ ص ۱۱۳ /صحابیات۔ ص ۱۹۱ / اسد الغابہ۔ جلد ۱۰۔ ص ۱۹۱ / سیرا الصحابة۔ جلد ۶۔ ص ۱۱۳ /صحابیات۔ ص ۱۹۱ / اسد الغابہ۔ جلد ۳۔ ص ۲۳ / حیاتِ الصحابة۔ جلد اول۔ ص ۲۹۹۔ این قم جوزی۔ اسوہ حسن۔ ص ۱۱۰ (۱۱۰) حضرت ہند بنت عتیق (سیرتِ دحلانیہ۔ ص ۳۰۶ / الوفا۔ ص ۱۸۳ / سیرتِ محمدیہ۔ جلد اول۔ ص ۱۹۷ / روضة الاحباب کا اردو ترجمہ بنام رسالت مآب۔ ص ۲۳۹ / ص ۱۱ / ص ۱۱ / سیرتِ سورِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۱۱ (۱۱) حضرت حارث بن ابی ہالہ (امیر الدین)۔ سیرتِ طبیبہ۔ ص ۱۸۲ / حمید اللہ، ڈاکٹر محمد۔ رسول اکرم کی سیاسی زندگی۔ ص ۸۶ / حیاتِ طبیبہ میں پیر کے دن کی اہمیت۔ ص ۲۲ / عبد نبوی کے نادر و افات۔ ص ۲۹، ۳۰ / جوامع السیرۃ۔ ص ۲۳ / سیرتِ احمد مجتبی۔ جلد اول۔ ص ۲۸ (۲۸) حضرت ہالہ بن ابی ہالہ (الوفا۔ ص ۱۸۳ / سیرتِ سورِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۱۱۱ / ہالہ بن ابی ہالہ (الوفا۔ ص ۱۸۳ / سیرتِ سورِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۱۱۱ / سیرتِ دحلانیہ۔ ص ۳۰۶ / مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۲۷ / اسد الغابہ۔ جلد ۹۔ ص ۳۲، ۳۳ / ص ۱۱ / اسد الغابہ۔ جلد ۹۔ ص ۹۳، ۹۴ / ص ۱۱ / سیرتِ احمد مجتبی۔ ص ۱۱ (۱۱) حضرت ہند بنت ابی ہالہ (شرف النبی)۔ ص ۲۰۳ / اسد الغابہ۔ جلد ۹۔ ص ۲۷ / ۱۲۷ - ۱۲۹ / الوفا۔ ص ۳۲ / مہنامہ "فتحت" لاہور۔ اکتوبر ۱۹۹۲۔ بجنوان سرپائیے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصہ دوم۔ ص ۲۲، ۲۳ / مہنامہ "نظام الشاعر" دہلی۔ رسول نمبر۔ ۱۹۲۹۔ مضمون از عبدالرزاق ملیح آبادی) حضرت ایکن بن عبید جبشی (اظہر محمود۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ فام رفتا۔ ص ۵۳ / شہناز کوش۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ ص ۱۸۹ (۱۸۹، ۱۹۹)

والي، کب اور کمالی کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے اور مہمان نوازی کرنے والے کیسے کہ سکتی ہیں۔

مصیبت زدؤں، مسافروں اور یتیموں کی مدد کرنے والے

قارئینِ کرام سے گزارش ہے، نظرِ انصاف سے دیکھیں کہ ہماری سیرت کی قربیا "ہر کتاب میں، اور خصوصاً ان کتابوں میں جنہیں بنیادی مآخذ کی حیثیت حاصل ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عُرُت و نکبت اور ناداری و کسپری کی جو تصویر پینٹ کی جاتی ہے، اس میں ان خصائص و خصائص کی کہیں ٹھیکانش نکلی ہیں جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب ترین ہستی، اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت خدیجہؓ فرمادی ہیں۔ یا ہماری کتابیں جو بولتی ہیں یا اُمُّ المؤمنین کا ارشاد مبارک حق ہے۔ دونوں باتیں دو انتہائیں ہیں اور بیک وقت کچھ نہیں ہو سکتیں۔

اور، ہمارا تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور یہی میرا ایمان ہے کہ جو شخص مہمان نواز ہو، وہ کبھی غریب ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر شخص کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے اور جو شخص کسی کو کھانا کھلاتا ہے، وہ دراصل اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد خزانہ غیر سے کرتا ہے، کبھی اسے کمی نہیں آنے دیتا۔ یہ تو میں آج کی گئی گزری دنیا کی باتیں کر رہی ہوں، خیر القرون کی نہیں۔ اور خیر القرون میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کے بعد ان کی عُرُت و تکددسی کا افسانہ کیا محسوس ہے اصل نہیں ہے۔

شعبِ الی طالب

کی ذمہ داری تھے، حضرت ابراہیمؑ تھے، حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کی پہلی اولاد تھی، حضرت اُم جیبہ رضی اللہ عنہا کی بھی، مدینہ طیبہ کے پہلے مسلمان حضرت اسد بن زُرارہ کی اولاد اور ایک آدھ ایسا یتیم پچھے بھی ہے جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں پسند نہیں کہ عائشہ (رضی اللہ عنہا) تمہاری ماں اور میں تمہارا باپ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بشیر بن عشریہؓ جنی کو یہ فرمایا تھا۔ (راجا شرید محمود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بچے۔ ص ۹۷)

یہ سب شخصیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرِ کفالت پڑیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھیں۔ ان سب کا بوجھ اٹھانے والی ہستی کو ان کی شریکِ حیات حضرت خدیجہؓ تو غریب نہیں گردانیں، جانے ہم کیوں ایسا کرنے پر اُدھار کھائے بیٹھے ہیں۔

صلہ رحمی کرنے والے

اُمُّ المؤمنِین سیدہ خدیجہؓ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو صلہ رحمی کرنے والے بھی کہا۔ مطلب یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری کا بوجھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا رکھا تھا، ان کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی حُسین سلوک فرماتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی کی جو تصویر ہماری کتابوں میں نظر آتی ہے، ان میں تو حضرت خدیجہؓ کی اس رائے کی تائید نہیں ہوتی۔

مہمان نوازی فرمانے والے

جس کے پاس خود کھانے کو کچھ نہ ہو، جو خود کچھ نہ کاتا ہو اور نعوذ بالله یوی کی کمالی پر گزارا کرتا ہو، اس کی محترم یوی اسے عیال کا بوجھ اٹھانے

ہے۔ (اسنی الطالب فی نجاتِ ابی طالب۔ مترجم صائم چشتی۔ ص ۳۰)

موسیٰ بن عقبہ نے امام زہری کے حوالہ سے اپنی مغازی میں لکھا ہے کہ ابوطالب کو جب معلوم ہوا کہ قریش کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہیں، تو انہوں نے بنی ہاشم اور بنی المطلب کو بلا بایا اور ان سے کہا کہ مجرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو ساختھے کہ سب کے سب شعبہ ابی طالب میں جمع ہو جائیں اور آخر وقت تک آپؐ کی حفاظت کریں۔ اس تجویز کو دونوں خاندانوں نے قبول کیا اور ان کے کافر اور مسلمان، سب شعبہ ابی طالب میں سٹ آئے۔ اس کے بعد قریش کے باقی خاندانوں نے آپؐ میں وہ معاهدہ کیا جس کا ذکر اور پر گزار ہے۔ (مودودی، سید ابوالاعلیٰ۔ سیرتِ سرورِ عالم۔ جلد دوم۔ ص ۲۲۲)

بنو ہاشم اور بنو مطلب میں سے صرف ابوالب کفار قریش کے ساختھے شامل رہا، باقی پورا قبیلہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حفاظت کے خیال سے جمع ہو گیا جس میں مسلمان تو تھے ہی، کافر بھی تھے۔ یہ حضرت ابوطالبؓ کی ذکاوت اور زیریکی کا اثر تھا کہ جو اہل قبیلہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے خیال سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ مگر اس کے نتیجے میں انھیں جس معاشرتی مقامیے (بائیکات) کا سامنا کرنا پڑا، جو مصائب اور مشکلات پیش آئیں، ان کا تجویز کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا قبائلی عصیت کی بنا پر لوگ اپنے بال پچوں کو بھوکوں مارنے پر آمادہ ہو سکتے تھے جبکہ وہ اس نئے دین پر ایمان بھی نہ لائے ہوں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کے آبائی مذہب کی تنقیط کی، آپؐ نے ان کے خداوں کو جھوٹا، بے اثر اور بے اصل قرار دے دیا۔ اسی وجہ سے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مخالفت کی گئی۔ یہ مخالفت اور مخاصمت

ابنِ امیح لکھتے ہیں "اس کے بعد قریش نے صحابہؓ کرام پر عرصہ حیات شک کرنا شروع کر دیا اور انتقامی کارروائی کے لیے ایک دوسرے کو بھڑکایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر قبیلے نے اپنے میں سے ایمان لانے والے کو سخت ترین عذاب میں جلتا کیا، اور اس کو دین سے برگشتہ کرنے کے لیے ہر جربہ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابوطالبؓ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ جب ابوطالب نے قریش کو صحابہؓ پر مظالم ڈھانتے دیکھا تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور حفاظت پر آمادہ کر لیا۔ ان میں سے صرف ابوالب اور اس کے بیٹوں نے قریش کے دشمن قبائل کا ساختھے دیا۔" (مختصر سیرت الرسول۔ ص ۱۸۳)

محمد ابراہیم میر سیالکوٹی لکھتے ہیں۔ "کفار نے پختہ ارادہ کر لیا کہ آنحضرت صلعم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو علانیہ قتل کر دیں کیونکہ بغیر اس کے یہ تحریک رکتی نظر نہیں آتا۔ ابوطالبؓ کو جب ان کے ارادے کی خبر گئی تو اپنے کتبہ بنو عبدالمطلب کو جمع کیا اور ان کو حکم کیا کہ وہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی جان کی حفاظت میں کھڑے ہو جائیں۔ قریش کو معلوم ہوا کہ یہ دونوں گھرانے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی جان کی حفاظت پر قُل گئے ہیں اور اب آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو قتل کرنا آسان نہیں رہا تو آپؐ میں مشورہ کیا کہ ان سب سے مقاطعت یعنی بائیکات کر کے ان پر مکہ شریف کی سکونت شک کر دی جائے۔ حتیٰ کہ وہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو قتل کے لیے ہمارے حوالے کر دیں۔" (محمد ابراہیم میر سیالکوٹی۔ سیرت المصطفیٰ۔ جلد اول۔ ص ۲۹۵)

یہی بات احمد بن زینی دحلانؓ کی اور دوسرے سیرت نگاروں نے لکھی

ان کے بال بچوں کے لیے روٹی کپڑے کا انتظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے۔ اس طرح وہ لوگ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن اس مصیبت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ شعبابی طالب کے تین برس کی محصوری کے دوران میں کسی کافر کے مسلمان ہونے کی اطلاع کسی کتاب سے نہیں ملتی۔ اگر وہ سب مسلمان ہو جاتے تو اور بات ہوتی۔ لیکن ان کے کافر رہتے ہوئے بھی حضرت ابوطالبؓ کے کہنے پر تین برس کا بایکاٹ جھیننا اس طرح تو انسانی برداشت سے باہر ہے کہ انھیں کھانے تک کو کچھ نہ ملتے۔

ان رسول میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو تجارت کر نہیں سکتے تھے کہ تجارت کا بھی بایکاٹ تھا۔ آپؐ یقیناً پورے قیلے کے اخراجات برداشت کرتے رہے۔ نیز آپؐ کے شریک تجارت بھی اپنا کام کرتے رہے۔ امام سُسیلی ”روض الانف“ میں لکھتے ہیں کہ یہوں مکہ سے کوئی تجارتی کاروائی آتا اور مسلمان ان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے تو ابوالب ان قاتلہ والوں سے زیادہ قیمت پر چیز خرید لیتا، مسلمانوں کے ہاتھ نہ پہنچنے رہتا۔ (الروض الانف۔ جلد دوم۔ ص ۷۷۔ بحوالہ ضیاء النبی۔ جلد دوم۔ ص ۳۸۵ / ابوالحسن علی ندوی۔ نبی رحمت۔ ص ۱۳۰)

لیکن ہشام بن عمرو عامری اور حکیم بن حرام کے بارے میں جو معلومات ملتی ہیں کہ وہ گیوں یا خوراک سے لدے ہوئے تین اوٹ محسوبین شعبابی طالب کے لیے لے جا رہے تھے کہ ابوسفیان اور ابو جمل نے انھیں دیکھ لیا اور روکنا چاہا۔ (شبلی نعمانی۔ سیرت النبی۔ جلد اول۔ ”محرم“ ۷ نبوی: شعبابوطالب میں محصور ہونا“ / ضیاء النبی۔ جلد دوم۔ ص ۳۸۵)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو حضرات سے مل کر تجارت کا کام جاری رکھا ہوا گا اور یہ شریک تجارت افراد پر اکٹھا کیا، ان کا معاشرتی بایکاٹ ہوا تو محصوری کے تین رسول میں ان کے اور

اتنی بڑھی کہ آپؐ کے رشتہ داروں تک نے آپؐ سے بُرا سلوک کیا، آپؐ کو تکلیف پہنچائی، آپؐ کے ساتھیوں پر ظلم و جوڑ روا رکھا۔ پھر یہ کیسے ہوا کہ وہ سب لوگ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ ہوئے، بلکہ مشترکہ بایکاٹ کا سامنا کیا، گھٹائی میں محصور ہوئے اور محصوری کا یہ دورانیہ تین برس تک ہے۔ اور۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ اس صورتِ حال میں ہے کہ ہمارے محترم سیرت نگار حضرات کے بقول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب اور مغلوق الحال بھی تھے۔

میں سمجھتی ہوں، قبائلی عصیت کا جتنا بھی اثر مان لیں، حضرت ابوطالبؓ کے خطبوں کی سحر انگیزی کو تسلیم کر لیں، معاشرتی مقاطعے کی اس صورتِ حال میں جس کی تصویر ہماری سیرت کی کتابوں میں کافی تفصیل سے پیش کی جاتی ہے، بچوں کو بھوکا مارنا قیلے والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ خاص طور پر ان حالات میں کہ ان میں سے زیادہ تر کام ہب اور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خداوں کو مانتے بھی نہیں تھے اور ان کے مقابلے میں خدائے واحد کے قائل تھے اور خود ”غیرب“ بھی تھے۔ تین برس تک یہ محصوری برداشت کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ اس دورانیے میں ان کے اخراجات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ہوں۔

اہل ایمان کا معاملہ تو الگ ہے لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنے خداوں کی تعظیط بھی کرائیں، بایکاٹ اور محصوری کی مصیبتوں بھی جھیلیں، بچوں کو بھی اپنے ساتھ بھوک رکھیں، پتے کھا کر گزار کریں اور ایک مغلوق الحال فرد کے لیے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔

ممکن بات یہ ہے کہ حضرت ابوطالبؓ نے انھیں قبائلی عصیت کی بنیاد پر اکٹھا کیا، ان کا معاشرتی بایکاٹ ہوا تو محصوری کے تین رسول میں ان کے اور

بُجُرْتِ مَدِينَةٍ

جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کو چلے تو آپؐ کی کسپری اور غربی کا ذکر سیرت نگار حضرات نہ بھی کریں، تو بھی اندازہ یہی ہوتا ہے کہ گھر میں سوائے لوگوں کی امانتوں کے، اور کچھ نہ تھا۔ وہ حضرت علیؓ کے حوالے کی گئیں اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کو مدینۃ النبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بنانے چل چڑے۔ لیکن جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، اس موقع پر قصوی اونٹی حضور علیؓ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت ابو بکرؓ سے خریدی تھی اور تو سودہم میں۔ کیا یہ کسی غریب شخص کے بس کی بات تھی۔

مواخات کی انوکھی مثال

مدینہ طیبہ میں پہنچنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مهاجرین اور انصار میں مواخات کا اجرا فرمایا۔ ایک ایک مهاجر کو، ایک ایک انصاری کا بھائی بنادیا یہ بھائی چارہ اتنا مثالی تھا کہ انصار نے اپنے مهاجر بھائیوں کے لیے ہر قربانی دی۔ اپنی ہر چیز کے نصف کا حق دار اپنے بھائی کو قرار دیا اور وہ حق انھیں دے دیا۔ لیکن مواخات کے اس عمل میں ایک انوکھی مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی۔ اپنے لیے کسی انصار کو بھائی قرار نہیں دیا، اس مهاجر کو بھائی بنایا جو خود آپؐ کے گھر میں پہلا بڑھا تھا۔ حضور علیؓ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت علیؓ کو اپنا بھائی قرار دیا۔

کسی سیرت نگار نے آج تک اس کی وجہ بیان نہیں کی لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی غریب نہ کبھی غریب اور

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان شعبابی طالب میں پہنچانے کے لیے لا رہے تھے۔ اس سے بھی اس کی توثیق ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبابی طالب کے تمام محصورین کے اخراجات کے زندہ دار خود تھے۔

مسئلہ تو صرف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محصورین یا تو خود (نحوہ باللہ) قتل کر دیں یا کفار قریش کے حوالے کر دیں، اور بس۔ اور، اگر ان کے کفیل سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام خود نہ ہوتے، ان کے تمام اخراجات خود برداشت نہ کرتے تو کافر محصورین میں سے کوئی نہ کوئی کفار قریش کے لیے جاسوی ضرور کر دیتا یا خود ان کا مطابہ پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ سیرت کی کسی کتاب میں کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ کافر محصورین میں سے کوئی ایک بھی ایسی کسی کوشش کا مرحلہ بھی ہوا ہو۔

اگر محصورین کی اور ان کے بچوں کی بھوک کی کمانیاں درست ہوں تو کافروں میں سے کوئی نہ کوئی اپنی یا اپنے بچوں کی بھوک کی وجہ سے کم از کم یہ تو کریں سکتا تھا کہ وہ گھٹائی سے مکہ واپس چلا جاتا اور وہاں جا کر کفار قریش سے مسلمانوں کی جاسوی کرتا، وہ جس طریقے یا جن طریقوں سے گزر بسر کر رہے تھے، وہ بتاتا اور محصورین کو معاشی طور پر مزید پریشان کرنے کی راہیں بھاگ سکتا تھا۔ کفار مکہ ایسے آدمی کو اس لیے بھی گلے لگاتے کہ اس طرح محصورین کی تعداد میں کمی آتی اور اسلام کو نقصان پہنچتا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو کیا یہ بات صدقی صدقی نہیں ہو جاتی کہ ان سب محصورین کے تمام اخراجات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس مال سے ادا کرتے تھے جو ان کے پاس تھا یا ان کے شریک تجارت اشیاء ضرورت انھیں مہیا کرتے تھے۔ حکیم بن حرام یا ہشام بن عمرو کو تو ایک بار کفار قریش نے دیکھ لیا تھا، ممکن ہے انھیں یا دوسرے شرکاء تجارت کو دیسیوں بیسیوں مرتبہ کوئی نہ دیکھ سکا ہو۔

وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لائے ابھی دس دن سے زیادہ نہ ہوئے تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا (سیرت النبی کامل۔ مرتبہ ابن ہشام۔ جلد اول۔ اردو ترجمہ۔ ص ۴۹۳) عبدالصمد رحمانی ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کردہ ابن ہشام کی اس روایت کا ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ طبقات میں ابن سعد نے لکھا ہے کہ ماہ ربیع الاول ۲ ہجری کا واقعہ ہے مگر کسی روایت کا حوالہ نہیں دیا، اس لیے ترجیح ابن ہشام کی روایت کو ہے۔ (حیات پیغمبر اعظم۔ ص ۲۵۳)

اگر یہ واقعہ رجیع الاول ۲ بھری کا بھی ہو تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ایک ہی سال ہوا تھا نا۔ آپ نے اگر رجیع الاول سن ایک بھری میں تجارت کا مشغل اختیار نہیں کر رکھا تھا، یا تجارت کی مکملی پلے سے آپ کے پاس نہیں تھی تو ایک سال میں کون سا ایسا کام ہوا تھا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوتھوں کے مالک بن گئے تھے۔ جبکہ آپ نے انصار مدینہ کے ساتھ مواغت کا رشتہ بھی نہیں پاندھا تھا اور ”غزوہ صفوان“ تک کہیں سے مالِ غنیمت بھی نہیں آیا۔ ویسے مالِ غنیمت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے کیا لیتے تھے؟ یہ بھی ایسا سوال ہے جس کا جواب نفی میں ہے۔

مقلوک الحال ہو سکتے تھے کہ کسی انصاری کو آپؐ کی خدمت کی سعادت نصیب نہ ہوتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات کے اس عمل میں بھی کسی انصاری کو اپنا بھائی قرار دینے کے بجائے حضرت علیؓ کو اپنا بھائی بنایا۔ کہ حضرت علیؓ کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد کرتے رہے تھے، کہ سکتے تھے، کرتے تھے۔ اور یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشہ تجارت کی وجہ سے تھا۔

حضور ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ یہاں کسی پر بوجھ بننا پسند نہ فرمایا، اہلی مدینہ میں سے کسی کے ساتھ مواخات کا رشتہ استوار نہیں کیا اور پھر بھی غزوہ صفوان (سفوان یا بدرا اولی) میں کُرز بن جابر فرمی نے مدینہ کی چراغاں پر حملہ کیا، حضرت ذرؓ کو جو چراغاں کے محافظ تھے، شہید کر دیا، پیڑوں کو آگ لگا دی اور موسیٰ ہنکا کر لے گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محمد دہلوی لکھتے ہیں۔ ”مدینہ منورہ کی چراغاں سے کُرز بن جابر فرمی ان اوتٹوں کو ہنکا کر لے گیا جن میں حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اونٹ بھی لکھتے ہیں۔“ (مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ اردو ترجمہ۔ ص ۳۶۴) عبدالحصیر رحمانی بھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ بھی تھے۔ (حیاتِ پیغمبر اعظم۔ ناشر مکتبۃ عالیہ۔ لاہور۔ ص ۲۵۳)

عام طور پر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ غزوہ بدر اولیٰ یا غزوہ صفوان ۲ ہجری میں ہوا۔ لیکن ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

غزوہ نبیر سے تین دن پہلے (عبد الرؤف دانا پوری)۔ اصح الایر۔ ص ۱۵۸) غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد کی جو صورت پیدا ہوئی تھی، اس میں بھی عربہ کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا تھا میں بار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راعی (یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے غلام تھے اور چڑواہے کا کام کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انھیں آزاد فرمادیا تھا اور اپنے اونٹوں کی رکھوالی کا کام پردازی کیا تھا)۔ (غلامانِ محمد۔ ص ۲۳۳) کو حکم دیا کہ انھیں اپنے ساتھ چراگاہ میں لے جائیں اور جب تک وہ بیمار رہیں، ان کی تماردواری کرتے اور اونٹوں کا دودھ پلاتے رہیں۔ جب وہ تکرست ہوئے تو حضرت یہاں کو شہید کر کے اونٹ لے گئے۔

بخاری شریف میں ہے کہ یہ آٹھ دس اونٹ تھے۔ دمیاطی کے نزدیک یہ دودھ دینے والی پندرہ اونٹیاں تھیں۔ (سیرتِ محمدیہ۔ جلد اول۔ ص ۲۳۰) ”المواهب اللدنیہ“ میں ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹیاں تھیں (سیرتِ محمدیہ۔ جلد اول۔ ص ۲۳۰) طبقاتِ ابن سعد میں ہے۔ ”عبد الرحمن بن عینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کو لوٹ لیا اور چڑواہے کو قتل کر دیا۔ حضرت سلمہ بن اکوئے کہتے ہیں، میں نے ربان سے کما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دو کہ ان کے جانور لوٹ لیے گئے۔“ (طبقاتِ ابن سعد۔ حصہ اول۔ اخبار النبی۔ اردو ترجمہ۔ ص ۳۲۵) ابن اشیر نے بھی یہی لکھا ہے۔ (اسد الغابہ۔ جلد ۲۔ ص ۱۳۵) راجا محمد شریف نے لکھا ہے۔ ”بلاد علفان کے قریب ذی قردہ ایک چشمہ کا نام ہے۔ یہاں رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹیوں کی چراگاہ تھی۔ یہ جگہ کوہ سلح کے پاس ہونے کے باعث سر بزرو شاداب تھی۔“ (حیاتِ رسالتہ۔ ص ۳۰۸) ڈاکٹر

شاراحمد کہتے ہیں کہ عینہ بن حسن بن بدر الفزاری القابی کی سرکاری چراگاہ پر حملہ آور ہوا اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی بیس اونٹیاں ہنکا کر لے گیا (نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۵۔ ص ۳۲)۔ مضمون ”عبد نبوی“ میں ریاست کا نشووار تقاضا (عبدالباری۔ رسول کرم کی جتنی ایکم۔ ص ۱۳۶) میں جو مدینہ سے تقدیریاً ”چھ میل دور ہو گا، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اونٹیوں کی چراگاہ تھی۔ (عبدالباری۔ رسول کرم کی جتنی ایکم۔ ص ۱۳۶) مطلب یہ کہ ربع الآخر ۶ ہجری میں غزوہ غابہ کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں بھی آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پندرہ بیس اونٹیاں لے جائی گئی تھیں۔ جو حضرت سلمہ بن اکوئے کی جانبازی، بہادری اور پھر تی کے سبب واپس ہوئیں۔ اور یہ موسیٰ کوہ سلح کے قریب واقع چشمے کی چراگاہ میں تھیں۔

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ زبر کو عزت بخشی اور اسے طیبہ بنیا، اس وقت بھی ان کے پاس اونٹ تھے، سن ۶ ہجری میں بھی ایک چراگاہ میں آپ کے اونٹ ہونے اور چوری ہونے کی اطلاع تو سیرت کی موجودہ کتابوں ہی سے مل گئی ہے۔ پھر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب کیونکر ٹھہرے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جو مزید اونٹ تھے، ان کا ذکر ان جانوروں کے تذکرے میں ہو گا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو سخافرماتے تھے

حضرت جبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں ایسے

واعقات کی تعداد آن گنت ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے درپر آئے والوں کو نواز دیا، کسی کو خالی نہیں بھیجا، سوال کرنے والے کو آئندہ کے لیے اس قابل نہیں چھوڑا کہ سائل رہے۔ چند ایک مثالیں صرف اس نقطہ نظر سے نقل کی جاتی ہیں کہ آپؐ کے جُود و سخا اور الطاف و عنایات کے ان "مُفْتَنَةٍ نَّمُونَةٍ إِذْ خَرَوْاَيْ" قسم کے واقعات سے اندازہ ہو سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عترت و عکف دستی کی کماییاں کسی طرح لا تلق توجہ نہیں۔ عبد الرحمن ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدد کی درخواست کی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ عطا فرمایا مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مزید عطا فرمایا تو وہ خوش ہو گیا۔ (الوفا پا حوالی المصطفی)۔ ص ۳۷۷

ابن اشیر کہتے ہیں، "حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت نوبل کو دو مکان مرحمت فرمائے۔ ایک رجہ القضا میں جو مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے متصل تھا، اور دوسرا بازار میں، ہبہ ندواع کے راستے پر۔" (مسنون الدین ندوی۔ سیر صحابہ۔ جلد سوم۔ مہاجرین حصہ دوم۔ ص ۲۳۳)

سنین نسائی میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے سو غلاموں کے بدالے سو درختوں کا ایک باغ خریدا تھا اور سو درخت انھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائے تھے۔ (عبد السلام ندوی۔ سیر الصحابة۔ ہشتم و نہم یعنی اسوہ صحابہ۔ حصہ دوم۔ ص ۸۰)

عبد الرحمن ابن جوزی لکھتے ہیں کہ ایک اعرابی کی او منٹی کو احباب کے کہنے پر حضرت نبیمانؓ نے ذبح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپؐ نے اعرابی کو اپنی طرف سے بدالہ عطا فرمایا کہ اعرابی کو راضی فرمایا اور

ذبح کی ہوئی اور منٹی صحابہؓ کرام کو کھلادی۔ (الوفا۔ ص ۵۱۸، ۵۱۹)

مسلم شریف، کتاب الفضائل میں ہے، "ایک بار ایک شخص نے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت بکیاں سی مانگیں۔ آپؐ نے اس کا سوال پورا کیا۔ اس پر اس فیاضی کا یہ اثر ہوا کہ اپنے قبیلے میں جا کر کہنے لگا، لوگو! مسلمان ہو جاؤ کیونکہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس قدر دیتے ہیں کہ ان کو اپنے تکلیف سے ہو جانے کا بھی خوف نہیں ہوتا۔ (اسوہ صحابہ۔ حصہ اول۔ ص ۲۹)

کیا یہ شخص چند واقعات اس حقیقت کو ظاہر کرنے اور ثابت کرنے میں مدد نہیں ہو سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیاتِ مبارکہ کے کسی مرحلے میں بھی غریب اور عُسرت زدہ نہیں تھے۔ صرف اس بات سے ہمارے سیرت نگار حضرات نے غربی کی کماییاں تراش لی ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھر کئی کئی دن کھانے کو کچھ نہ پکتا تھا اور آپؐ پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی کمالی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا اور خود بھوکا رہتا اور اپنے اہل و عیال کو بھوکا رکھنا اس مقصد کے لیے تھا کہ امت کے لوگ بھی ٹھوںس ٹھوںس کر کھانے کے بجائے بھوکے رہ کر دوسروں کی مدد کرنا یکصیں اور اسلامی معاشرے میں معاشی طبقات جنم نہ لے سکیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھوکا رہتا اور دوسروں کو کھلادیا سُنّت نبویؓ ہے۔ جس کی تقلید کا خیال بھی سنت کا مبلغوں کو شاید کبھی نہ آیا ہو۔

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدییے کے جواب میں ہدیہ عطا فرماتے تھے

بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ ہدیۃ

کچھ پیش کرتے تھے کیونکہ آپ نے صدقہ تو اپنے اور اپنے خاندان کے لئے حرام کر رکھا تھا۔ (بخاری۔ کتاب الصدقہ باب مایز کرنی صدقۃ النبی) این حرم ظاہری کہتے ہیں۔ "اگر کوئی ہدیہ یا تحفہ پیش کرتا تو اس کو قبول کرتے اور نہ کھاتے۔ کوئی چیز آپ کو پیش کی جاتی تو آپ دریافت فرماتے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہوتا تو قبول فرمائیتے ورنہ احتراز کرتے تھے"۔ (جواعی السیرۃ۔ ص ۲۳)

جمال جمال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ قبول نہ کرنے اور ہدیہ قبول کرنے کی بات کی جاتی ہے، اس سے تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ ہدایا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزران ہوتی تھی اور شاید ہمارے مولوی اور پیر اسی "بنت" پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے ہدیے وصول کرتے ہیں اور اپنے گھر بھرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ذریعہ معاش ہمیشہ تجارت ہی کو رکھا اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہدیے کے طور پر کچھ آ جاتا تھا تو کھاتا پکتا تھا، ورنہ فاتے کرنے پڑتے تھے۔

ہدیے کے معاملے میں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا روایت یہ تھا کہ ہدایا باہمی طور پر ہوں۔ (ماہنامہ "فلک و نظر" اسلام آباد۔ مارچ ۱۹۸۳۔ ص ۱۳) اس سلسلے میں آپ کا طرزِ عمل یہ تھا کہ ہدیہ دینے والے کو ویسا یا اس سے بہتر لونا چاہیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ "باہم ایک دوسرے کو ہدیے بھیجو کیونکہ یہ دلوں کے بعض کو گناہاتا ہے"۔ (مشکوٰۃ المعانی۔ باب العطاۃ) ایک دفعہ قبلہ میں فزارہ کے ایک شخص نے آپ کی خدمت میں ہدیہ "ایک اوپنی پیش کی۔ آپ نے اس کا صلد دیا تو وہ سخت ناراض ہوا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے منبر پر کھڑے ہو کر خطاب عام کیا اور فرمایا کہ تم لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہو اور میں

بقدرتِ استطاعت اس کا صلد دیتا ہوں تو ناراض ہوتے ہو۔ آئندہ میں قریش، انصار، تھیف اور دوس کے سوا کسی قبیلے کا ہدیہ قبول نہ کروں گا۔" (اب المفرد۔ بحوالہ "آنحضرت" کی معاشری و معاشرتی زندگی" از خالد علوی۔ دو ماہی "اسلامی تعلیم" لاہور۔ جنوری فروری ۱۹۷۳۔ ص ۲۲)

ہدیے کے بارے میں ایک دلچسپ صورت حال ابن کثیر نے یوں بیان کی ہے کہ حضرت حمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی نہ کوئی تحفہ لے آتے اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے کہ جو تحفہ میں نے آپ کو دیا ہے، اس کا مالک رقم کا تقاضا کر رہا ہے، آپ اس کی قیمت دے دیں تاکہ میں اس کے مالک کو دے سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے اور اس کو رقم دینے کا حکم فرماتے۔ (اسد الغابہ۔ جلد ۳۔ ص ۶۱)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصول کے مطابق حضرت حمار کے ہدیے کے جواب میں ہدیہ بھی عطا فرمادیتے ہوں گے، پھر ان کے ہدیے کی قیمت بھجن دلوادیتے ہوں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کوئی چیز، یا کسی چیز کی قیمت دلواتے تھے، صرف اپنے کسی شریک تجارت سے اپنے حساب میں۔

یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز خود خریدیں، یا کوئی ہدیہ خود قبول فرمائیں، اور اس کا معاوضہ یا صلد کسی دوسرے کی جیب سے دلوائیں۔

ہدیے کے سلسلے میں ایک اور غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ سیرت مطہرہ کی کتابوں کے مطالعوں سے شبہ ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں سربراہِ مملکت تھے، ہدیے اس وقت زیادہ آتے تھے۔

اس سے یہ بدگمانی جنم لے سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم تھے، اس لیے ہدیے آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انھیں وصول فرماتے تھے۔ کیونکہ ہر کتاب میں بار بار یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ حضور پُنور علیہ الصلوٰۃ والسلام صدقہ نہیں دیتے تھے۔ ہاں ہدیے سے انکار نہیں فرماتے تھے۔

حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیے وصول فرمائے کہ ہدیے دینے والے کو جواباً ہدیے عطا فرماتے تھے اور اگر کوئی دوسرا شخص یہ ہدیے لے کر آتا چھاتو لانے والے کو انعام بھی عطا فرماتے تھے۔ اس سے بھی حاکموں کو ہدیے وصول کرنے کا جواز ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب مال نے عامل کو زکوٰۃ کے علاوہ کچھ ہدیے بھی دیا۔ عاملین پرے راست باز ہوتے تھے۔ انہوں نے حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہو کر حق بنا دیا کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، اور مجھے ہدیہ ملا ہے۔ اس پر حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) طیش میں آگئے اور منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ ”کچھ لوگوں کو میں عامل بناؤ کر بھیجتا ہوں اور وہ آکر یوں اور یوں کہتے ہیں۔ بھلا اگر وہ مال بآپ کے گھر میں بیٹھے رہتے تو ان کو ایسے ہدیے مل سکتے تھے؟“ (عبد الرحمن کیلائی۔ اسلام میں ضابطہ تجارت۔ ص ۱۳۵)

اس سے جماں ہمارے لیے سبق ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ روش پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے کہ آپ اپنی حیثیت کی وجہ سے ہدیہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ ہدیہ اگر محبت و عقیدت کے جذبے کی بنیاد پر ہوتا چھاتو قبول فرمائیتے تھے لیکن اس کے جواب میں عام طور پر اس ہدیے کی قیمت سے زیادہ ہدیہ عطا بھی فرماتے تھے۔ ہمارے مولویوں اور پیروں کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت تو خیر نظر ہی نہیں آتی ہوگی۔

حضرت مسیح علیہ السلام انعام عطا فرماتے

ابن حزم ظاہری نے توہینیے کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ”آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ہدیہ لیا، دیا ہے اور ہدیہ لانے والے کو انعام بھی دیا ہے۔“ (جوامع السیرۃ۔ ص ۱۱۱)

لوگ ہدیے وصول کرنے کی بات کرتے ہیں، یہاں حقیقت یہ نکلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ہدیے کے جواب میں ہدیہ عطا فرماتے ہیں، بلکہ اگر کسی کا ہدیہ کوئی اور لاتا ہے تو اس کو انعام بھی فرماتے ہیں۔ انعام کی بات چلی ہے تو دیکھیے کہ ابن قیم جوزی کیا کہتے ہیں۔ ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر بھی سنتے اور اس پر انعام بھی دیتے۔“ (اسوہ حسن۔ ص ۱۱۲)

حضرت مسیح علیہ السلام خریداری فرماتے

مولانا محمد صدیق ہزاروی لکھتے ہیں۔ ”اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام اشیاء ضرورت بلا معاوضہ پیش کرنے کو سعادت سمجھتے تھے۔ لیکن آپ نے ہمیشہ قیمت ادا کر کے کوئی چیز حاصل کرنا ضروری سمجھا اور کب کی فضیلت کو واضح کیا۔ یہی نہیں بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ کوئی چیز خریدی۔ پھر باعث کو قیمت ادا کر کے وہ چیز بھی واپس کر دی اور اکثریوں بھی ہوتا کہ مقررہ قیمت سے کچھ زائد ادا کر دیا جاتا ہے آپ بطور تحفہ عنایت فرماتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول کشم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ نے فرمایا، تم اپنا اوٹ میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک و سلم) وہ آپ ہی کا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، نہیں، نہ دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک و سلم) وہ

آپ ہی کا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں بچ دو۔ میں نے کہا، بچ دیا۔ آپ نے حضرت بلاں رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس کی قیمت ادا کر دو اور کچھ زائد بھی دے دو۔ جب مجھے قیمت ادا کی جانے لگی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) اس سے توبت ہے، آپ میرا اونٹ مجھے واپس کرویں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اونٹ اور قیمت دونوں لے جاؤ اور میرے لیے دعا بھی فرمائی۔” (ماہنامہ ”الجامعہ“ جامعہ محمدی شریف جہنگ۔ سیرت نبیر۔ اکتوبر نومبر ۱۹۸۶ء۔ ص ۲۹۸، ۲۹۹۔ مضمون خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی از محمد صدیق ہزاروی)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ”مدارج النبوت“ میں سید جمال حسینی نے ”روضۃ الاحباب“ میں اور ابن ہشام نے سیرت میں یہ واقعہ درج کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقان سے واپسی کا ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں، ”حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ بھی حضرت جابر کو دے دیا اور ایک اوقیہ سو ناقیت بھی دی (سیرت النبی کامل۔ جلد دوم۔ ص ۲۳۹) جمال حسینی کہتے ہیں، یہ اوٹنی چالیس درہم میں خریدی، اوٹنی بھی انھیں دے دی اور ان کے والد کا قرضہ بھی ادا کر دیا۔ (رسالات کتاب۔ ص ۲۶۲) شیخ عبدالحق محدث دہلوی اونٹ کی قیمت نہیں لکھتے البتہ یہ کہتے ہیں کہ قیمت بھی ادا کر دی، اونٹ بھی واپس کر دیا۔ (مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۳۲۵) میں نے غزوہ ذات الرقان کے ذکر میں، اپنی کتاب ”حیات طیبہ“ میں پیر کے دن کی اہمیت“ میں بھی یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ (ص ۲۶۲)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ صحابہ کرام سے قیمت کے بغیر کوئی چیز نہیں لیتے تھے بلکہ یہ کہ چیز کی قیمت ادا کر کے بعض اوقات چیز بھی واپس عنایت فرمادیتے تھے۔ اس پر مُڑو یہ کہ ان

کے قرض بھی ادا فرمادیتے تھے۔ غور فرمائیے کہ یہ سب کچھ حضور علیہ السلام اپنی نیک دستی اور غرمی کے مل بوتے پر تھوڑے ہی کرتے ہوں گے۔ میں پہلے عرض کر چکی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز خریدتے تو اس کی قیمت اپنے کسی شریک تجارت سے دلوتے تھے اور وہی صحابی آپ کی تجارت کا حساب کتاب بھی رکھتے تھے۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ رقم آپ کا کوئی سیکڑی ادا کرتا تھا۔ یہ جو حضرت جابرؓ کو اونٹ کی قیمت ادا ہوئی، یہ حضرت بلاں رضی اللہ عنہ سے دلوائی گئی۔ ڈاکٹر محمد یاسین مظہر صدیق لکھتے ہیں۔ ”رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکڑیوں پر بحث کے اختتام پر حضرت بلاں جبھی کے مقام و مرتبہ پر گفتگو ضروری معلوم ہوتی ہے۔ غالباً وہ بھی اسلامی ریاست کے شعبہ کا تین میں شامل نہیں رہے لیکن جہاں تک لفظ سیکڑی کا تعلق ہے، وہ صحیح معنوں میں اس کے حق دار تھے۔ وہ سفر و حضر، دکھ سکھ، امن و جنگ، کسی بھی عالم میں صحبت نبوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے دور نہیں رہتے تھے۔ تعلق خاطران کو کہیں اور چینیں نہیں لیتے دتا تھا اور خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ مآخذ کا بیان ہے کہ وہ آپ کے پیشتر ذاتی اور سرکاری کاموں اور ضروریات کی تحریک کرتے تھے۔“ (نقوش۔ جلد ۵۔ ص ۵۹۳۔ ”عبد نبوی میں تنظیم رسالت و حکومت“) اُسد الغابہ میں ہے کہ حضرت بلاں جبھی رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خازن (خزانچی) بھی تھے اور اپنے کپڑے (یا جیب) میں چاندی رکھا کرتے تھے۔ یہ خام چاندی بھی ہوتی تھی جو وزن کے اعتبار سے سکوں کی جگہ استعمال ہوتی تھی یا ڈھلنے کے بھی ہوتے تھے۔ اس بیان کی تصدیق ابن اسحاق جیسے متعدد ابتدائی مآخذ سے ہوتی ہے۔ چنانچہ غزوہ ذات الرقان کے دوران جب رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے ایک اونٹ ایک اوقی

بھی اس حقیقت کی طرف واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غریب اور مالی تحدیت کا شکار ثابت کرنے کی کوششیں محض بے جواز ہیں۔ جو جانور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملکیت تھے، ان کا منزد ذکر آگے آئے گا۔ فی الحال خریداری کے حوالے سے دو ایک واقعات اور ملاحظہ فرمائیں مگر قارئینِ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی کی اصلیت جان سکیں۔

ابن سعد، حضرت اُسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ذکر میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مشرک شخص ذی یہن نایی نے حکیم بن حرام کی معرفت ایک بیش قیمت حل آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں بطور پدیدیر پیش کیا۔ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اس کی خدمت میں بطور پدیدیر پیش کیا۔ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ایک مشرک سے ہدیہ قبول کرنا کوara نہ فرمایا لیکن چونکہ حضور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کسی کا دل بھی نہ توڑتا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اسے پچاس دنیار میں خرید لیا اور ایک مرتبہ پہن کر اُسامہ کو دے دیا۔ (غلامانِ محمد۔ ص ۳۱ / اظہر محمود۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ قام رفتہ۔ ص ۶۰)

طالب ہاشمی نے حکیم بن حرام کے حوالے سے یہ واقعہ یوں بیان کیا ہے: "ایک بار حکیم بن حرام نے ایک قیمتی حل آقا حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمتِ اقدس میں تخفہ کے طور پر پیش کیا۔ مگر آپ نے اسے لینے سے انکار کیا اور فرمایا۔ "میں مشرکین سے ہدیہ نہیں لیتا۔ اگر آپ چاہیں تو میں قیمت ادا کر کے یہ حلہ لے سکتا ہوں"۔ (طالب ہاشمی۔ آسمانِ بدایت کے ستر ستارے۔ ص ۲۰۲) اس سے یہ تو ظاہر ہے کہ بیش قیمت حلہ خریدنے کی استطاعت تو برحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھتے تھے۔

ابن اشیث نے نوقل بن حارث کے پوتے کے ذکر میں بیان کیا ہے کہ

چاندی (چالیس درہم) میں خریدا تھا تو اس کی ادائیگی حضرت بالا ہی نے ہدایت نبویؐ کے بموجب کچھ اضافہ و انعام کے ساتھ کی تھی۔ اس کے علاوہ بعض اور خریداروں کی رقم بھی حضرت بالا ہی نے ادا کی تھی جس کے حوالے مآخذ میں جانجہ ملتے ہیں۔" (نقوش۔ جلد ۵۔ ص ۵۹۳)

قصویؑ کی خریداری کا ذکر پلے بھی آچکا ہے۔ "بھرت کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اصرار کے باوجود آپؐ نے قیمت ادا کیے بغیر اونٹی قبول نہ کی۔" (الجامعہ۔ سیرت نبیر۔ اکتوبر نومبر ۱۹۸۶ / ربیع الاول ۷۴۰ھ۔ ص ۲۹۹)

دارقطنی میں ہے، "ایک دفعہ مدینہ منورہ کے باہر ایک مختصر ساقافہ آکر فروکش ہوا تھا۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ ان کے ساتھ تھا۔ اتفاقاً" آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ادھر سے گزرے تو آپ نے اونٹ کی قیمت پوچھی۔ لوگوں نے قیمت بتائی۔ بے مول قول کیے، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے وہی قیمت منظور کری اور اونٹ کی ہمارا پکڑ کر شرکی طرف روانہ ہو گئے۔ بعد میں لوگوں کو خیال آیا کہ بے جان پچان ہم نے جانور کیوں حوالے کر دیا۔ سب پشیمان تھے۔ قافلے کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی، اس نے کہا، مطمئن رہو۔ ہم نے کسی شخص کا چوہ ایسا روشن نہیں دیکھا یعنی ایسا شخص دعا نہیں کرے گا۔ رات ہوئی تو آپ نے ان کے لیے کھانا اور قیمت بھر کھجوریں بھجو دیں۔ (دارقطنی۔ جلد دوم۔ کتاب السیع) نقوش میں سیرتِ ابن اسحاق کا جو ترجمہ شائع کیا گیا ہے، اس میں بھی یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ (نقوش۔ رسول نبیر۔ جلد ۱۱۔ ص ۲۵۰)

غزوہ سفوان اور غزوہ غائبہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کا ذکر پلے بھی ہو چکا ہے۔ خریداری کے مذکورہ بالا چند حوالے

عبداللہ بن حارث بن توفیل کہتے ہیں، ”بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حلہ ۷۔۲۔ اوٹیوں کے عوض خرید اتحا اور اس کو پہنچی کرتے تھے۔ (اسد الغابہ۔ جلد ۵۔ ص ۱۸۷)

اب فرمائے، کیا واقعی مجھے ان واقعات کو جان کر بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو غریب کئے جانا چاہیے؟

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلہ فروخت کیے

حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کا ذکر پلے آچکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے کہ یہ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو طلے دے کر انھیں خرید و فروخت کے لیے یمن کو روانہ کیا (اسد الغابہ۔ جلد ۹۔ ص ۸۶) اور سُنْنَة ابوداؤد میں حضرت حیم بن حرام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو منع فرمایا ایسی چیز کے فروخت کرنے سے، جو میری ملکیت نہیں (سُنْنَة ابوداؤد۔ کتاب الصیوّع) یہ حدیث پاک جامع ترددی اور سُنْنَة نسائی میں بھی ہے (حفظ الرحمن سیواہی)۔ اسلام کا اقتصادی نظام۔ ص ۲۷۱ / عبد الرحمن کیلانی۔ اسلام میں ضابطہ تجارت۔ ص ۸۶، ۸۷

مقداد یہ ہوا کہ کچھ حلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کے لیے خریدے، خود استعمال فرمائے یا کسی کو عطا فرمادے۔ کچھ حلہ فروخت کے مقصود کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھے رہتے تھے۔ جنہیں آپؐ کے شرکاء تجارت فروخت کے لیے لے جاتے تھے۔ اور خود سرکار

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فروخت کے لیے بھیجتے تھے، وہ کسی اور کی ملکیت نہیں ہو سکتی تھی۔ تجارتی منڈیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارت کے مقصد کے لیے تشریف لے جانا تو ثابت ہے۔ ذی الجاز کے تجارتی میلے کا ذکر بھی پلے آچکا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ فرمائی تو ابواب نے آپؐ کا چیچھا کیا، وہ آپؐ کو پھر مارتا تھا اور برا بھلا کھاتا تھا۔ ابن احراق میں ہے، طارق بن عبداللہ الحاربی نے کہا، میں نے ایک وفعہ ذی الجاز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ میں وہاں خرید و فروخت کے لیے گیا ہوا تھا۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہمارے پاس سے گزرے۔ آپؐ نے ایک سرخ دوشا لاپن رکھا تھا (نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۱۱۔ ص ۲۲۹) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ اسلام کے ابتدائی دنوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی حیثیت وہ نہیں تھی جس کا نقشہ ہمارے محترم سیرت نگار کھینچتے ہیں بلکہ آپؐ نے سرخ دوشا لاپن رکھا تھا۔ اس سے اس بات کو بھی تقویت پہنچتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر تبلیغی سفر تجارتی سفر بھی ہوتا تھا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرضہ لیتے تھے

کہیں کہیں سیرت مطہرہ کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرضہ لینے کی بات بھی ملتی ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ تجارت پیش افراد کو کبھی نہ کبھی قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام لوگوں سے قرضہ لینے ہوں گے، لوگوں کو قرضہ دیتے بھی ہوں گے۔ لیکن آپؐ جیسے دریا دل، فیاض، تُودو

خا اور الاطاف و عنایات کرنے والے کی شان عظمت سے بعید ہے کہ کسی دوسرے شخص کو اس بات کا علم ہو سکے کہ آپ نے فلاں کو قرض دیا ہے۔ اس لیے سیرت کی کتابوں میں صرف آپ کے قرضہ لینے کی بات ملتی ہے۔ مگر جہاں قرضہ لینے کی بات ہے، وہاں اس قرضے کی واپسی کا انداز بھی ملتا ہے۔ مثلاً ابن قیم جوزی لکھتے ہیں ”معاملات میں آپ کا طریقہ بہترین تھا۔

قرض لیتے تو قرض سے زیادہ ادا کرتے اور قرض خواہ کے حق میں وعا فرماتے کہ اللہ تیرے مال و اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ فرماتے کہ قرض کا معاوضہ یہ ہے کہ ادا کیا جائے اور شکر گزاری کی جائے“ (ابن قیم جوزی۔ اسوہ حسن۔ ص ۲۷۴) مزید لکھتے ہیں کہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ایک انصاری سے قرض لیا اور اس کو دو گناہ عطا فرمایا (ایضاً۔ ص ۲۷۴)

”سیر الصحابة“ میں ہے کہ رسول اللہ صلم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جب قرض ادا فرماتے تو اسے توہمن مال دیتے تھے (سیر الصحابة۔ جلد پنجم۔ اسوہ صحابہ۔ حصہ اول۔ ص ۲۳۱)

امام زہری فرماتے ہیں، ایک یہودی نے کہا، میں تورات میں بیان کردہ صفاتِ توبیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی دیکھ چکا تھا۔ صرف آپ کے حلم و بُرُدباری کا مشاہدہ اور تجربہ نہیں کر سکتا تھا جتناچھی میں نے آپ کو ایک مدتِ معینہ کے لیے تیس دینار بطور قرض دیے۔ ابھی مدتِ مقررہ میں ایک دن باقی تھا کہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مجھے میراث حق پورا پورا ادا کریں کیونکہ تم بنی عبدالمطلب مثال مثول اور پس و پیش سے کام لینے والے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اے یہودی کیا تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ بجنا اگر سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہوتے تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تم سے درگزر فرمائے۔ اے ابا حفص! ہمیں تمہاری طرف سے اس سے مختلف سلوک اور بر تاؤ کی ضرورت تھی۔ مجھے واجب الادا، قرض کی ادائیگی کا مشورہ دیتے اور اس کو حق لے کر دلانے میں مددگار ثابت ہوتے کیونکہ وہ اس امر کا زیارت حا تمدن تھا۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ میرے جہل اور احتقار سلوک نے آپ کے حلم و محفل میں اضافہ کیا تھا کہ غنیظ و غصب میں۔

پھر آپ نے فرمایا اے یہودی! تمہی مقرر کردہ مدت کل پوری ہو گی اور تمرا قرض واجب الادا ہو گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ اے ابا حفص! فلاں باغ کی طرف کل جانا اور یہ قرض خواہ اگر وہاں سے اپنے قرض کا عوض وصول کرنے پر رضامند ہو تو پھر فلاں باغ سے اس کا قرضہ ادا کر دیا اور اتنے اتنے صاع مزید بھی دینا تکہ جو تنظیم و تشذیب تم نے اس سے کی ہے اس کا لکوارہ ہو جائے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو حسب الارشاد اس باغ میں لائے جس کا پہلے دن اس کی طرف سے مطالبه ہوا تھا، وہ وہیں سے اپنا حق وصول کرنے پر رضامند ہو گیا تو حضرت عمر نے حسب فرمان لئے تو یہ اس کا قرض وہاں سے ادا کر دیا اور جتنے اضافے کا آپ نے حکم دیا، وہ بھی ادا کر دیا۔ (الوفا باحوال المصطفی۔ ص ۲۸۰-۲۸۱)

میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوکوں کو قرضہ دیتے بھی ہوں گے لیکن آپ کے خلق عظیم سے بعید ہے کہ آپ اس تذکرہ فرماتے ہوں۔ اور، اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے قرض لیتے کو آپ کی غریبی پر محمول کرنا چاہے تو اس کا جواب ابن قیم جوزی کی اس تحریر میں موجود ہے اور کافی ہے۔ لکھتے ہیں۔ ”آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا

اعلان عام تھا کہ میں تمام مسلمانوں کے قرض کا ضامن ہوں۔ جو مسلمان قرضہ چھوڑ کر مرے، اس کی اوائلی میرے ذمہ ہے" (ابن قیم جوزی۔ اسوہ حسن۔ ص ۲۸۶)

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان عام یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان قرضہ چھوڑ کر مرے، اس کو ادا کرنا مملکتِ اسلامیہ کی ذمہ داری ہوگی یا وہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ بلکہ اعلان یہ ہے کہ اس کی اوائلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمتی اس اعلان کی راہ میں حاصل کیوں نہیں ہو سکی۔

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام آزاد کرنا

"روضة الاحباب" میں ہے۔ "آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) غلاموں کو آزاد کرنے کا بہت اہتمام فرماتے اور اس کی فضیلت بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے لوٹیٰ غلام دونوں کو آزاد کیا ہے لیکن غلاموں کی تعداد زیاد ہے" (رسالت مأب۔ جلد دوم۔ ص ۳۳۶) "غلامانِ محمد" میں ہے کہ حضرت ابوکبشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید کر آزاد کر دیا (غلامانِ محمد۔ ص ۱۵۵) ابن قیمیہ لکھتے ہیں کہ ابوکبشہ کا نام سلیم تھا۔ دوس کے مولدین میں تھے۔ ایک قول کے اقتدار سے یہ مکہ کے مولد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خرید فرمایا کہ آزاد کیا تھا (ابن قیمیہ۔ سیر انبیاء و صحابة و تابعین۔ اردو ترجمہ از سلام اللہ صدیقی۔ مطبوعہ اغثیا۔ ص ۳۵)

اسد الغابہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں ابوہاشم اور ان کی والدہ کو آزاد کر دیا (ابن اشیر۔ اسد الغابہ۔ جلد ۱۔ ص ۲۷۵)

حضرت نبی "غلام تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں خرید اور آزاد کر دیا (اسد الغابہ۔ جلد ۹۔ ص ۳۷۔ سیر انبیاء و صحابة و تابعین۔ ص ۴۳۶)

ابولبابہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اور بنو قرینہ میں سے تھے۔ پسلے کسی اور شخص کے پاس تھے۔ انھوں نے اس سے مکاتبت کر لی لیکن رقم ادا نہ کر سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کے مالک کو مقررہ رقم دے کر انھیں خرید لیا اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا (غلامانِ محمد۔ ص ۱۵۶)

حضرت شتران صالح کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراث میں ملے تھے لیکن بعضوں کا بیان ہے کہ وہ پسلے عبدالرحمن بن عوف کے ملوك تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خرید کر آزادی عطا کی تھی (سیر انبیاء و صحابة و تابعین۔ ص ۳۵)

عبد الرحمن ابن جوزی نے حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آزاد کردہ غلاموں اور لوگوں کی فہرست یہ درج کی ہے: اسلم جن کی کنیت ابو رافع ہے۔ احر جن کی کنیت ابو عسیب ہے۔ اسماء بن زید رافع اسراء ایمن ٹوبان زکوان جن کو میران اور مہمان بھی کہا جاتا ہے۔ رافع رباہ زید بن حارثہ زید بن بوی سائب سالم سلمان الفارسی ابو کبشہ سلیم دوسی ابو کندید سعید شتران جن کا نام صالح ہے، ضمیرہ بن الی ضمیرہ، عبد اللہ بن اسلم، عبید بن عبد الغفار، فضالہ یمانی، کیسان، میران، ابو عبد الرحمن، بقول ابراہیم حبی بی حضرت سفینہ یہیں۔ البتہ دوسروں کے نزدیک حضرت سفینہ کا نام رومان ہے۔ مدعم رافع ابو بکرہ نفعی، نیز واقد، وردان، ہشام، یسار، ابو ایلہ ابو الحمراء، ابو رافع جو کہ بھی کے والد ہیں۔ ابو الحمّہ سعد ابو عبید اور کہا گیا ہے کہ عبید۔ ابو موسیٰ جو کہ منیذہ سے ہیں (وہ بھی آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں) ابو واقد کرکے مابرہ

ابوالبایہ، ابو تیپڑے ابوہند مولدی۔ ام انکن جن کا نام برکت ہے۔ اُم موسیجہ خضرہ، رضوی، سعید، سلسلی، ماریہ، میونہ بنت سعد، میونہ بنت ابی عیسیٰ، ام ضمیرہ، ام عیاش (رضی اللہ تعالیٰ عنہن) (الوقا۔ ص ۶۲۲)

سل بن یوسف اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے ناقل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال شریف کے قریب چالیس غلام آزاد فرمائے (الوقا۔ ص ۸۰۳)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طبیہ کا صرف ایک یہ پہلو پیش نظر رکھیں تو بھی آپؐ کی عزت کی کمالی مجوہ ہوتی نظر آتی ہے۔

نین حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی

ابن قتیبہ لکھتے ہیں۔ ”لوگوں کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ”محضور“ جو مدینہ کے بازار کی جگہ ہے، مسلمانوں پر وقف کر دی تھی۔ وہ زمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حرث بن الحنم کے بھائی کو جاگیر میں دے دی اور باغِ فدک مروان کی جاگیر میں دے دیا۔ حالانکہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موقوفہ جائیداد تھی۔“ (ابن قتیبہ۔ سیر انبیاء و صحابہ و تابعین۔ ترجمہ از سلام اللہ صدیقی۔ مطبوعہ انڈیا۔ ص ۱۹۲) ”کتاب المعارف“ کے مترجم سلام اللہ صدیقی نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ”اگر ابن قتیبہ کی روایت صحیح ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی زمین مسلمانوں پر وقف کی تھی۔ ان میں حضور، فقیر، بر قیس، بنو نصیر اور سنح وغیرہ تھیں“ (ایضاً۔ حاشیہ) قریبے کے ذکر میں ایک واقعہ پسلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمیں دنار قرض دیے اور مدت مقررہ سے

ایک دن پسلے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے اس کی بد تیزی پر سختی سے اسے جواب دیا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر! ہمیں تمہاری طرف سے اس سے مختلف سلوک کی توقع تھی۔ پھر اس یہودی سے فرمایا کہ تیری مقرر کردہ مدت کل پوری ہو گی اور تیرا قرض واجب الادا ہو گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروقؓ اعظم سے فرمایا، اے فاروق! کل فلاں باغ کی طرف جانا، اور اس سے اس کا قرض ادا کر دنا۔ اگر راضی ہو جائے تو بہتر، ورنہ اسے اتنے صاع مزید دے دنا۔ اور اگر وہاں سے یہ اپنے قرض کا عوض وصول کرنے پر رضامند ہو تو پھر فلاں باغ سے اس کا قرض ادا کر دنا، اور اتنے صاع مزید بھی دنا مکہ جو تشیدی تم نے اس سے کی ہے، اس کا کفارہ ہو جائے۔

یہودی نے کھبوریں حاصل کیں اور کلمہ طبیبہ پڑھ لیا۔ اس نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ علاماتِ ثبوت کو پرکھنا چاہتا تھا جو تورات میں مذکور تھیں اور یہی علامت پر کھنی باقی تھی۔ اب میں نے آج کے دن آپؐ کے حکم و حوصلہ اور تحمل و برداہی کو آزمایا۔ (الوقا باحوال المصطفی۔ ص ۲۸۱)

محمد ارشد نے اپنے مضمون ”اسلام میں محنت کی عظمت“ میں لکھا ہے کہ ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مقام جرف میں کاشت کی تھی اور اس طرف رغبت دلاتے ہوئے فرمایا۔“ ”رزق کو زمین کی پنسائیوں میں تلاش کرو۔“ امام سرخی کہتے ہیں کہ اس سے مراد زمین پر محنت یعنی کھنچی باڑی کرنا ہے۔ اسی کی عظمت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان درخت بوتا ہے اور کھنچی کرتا ہے اور اس سے پرند، انسان اور جانور اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں تو یہ عمل اس کے حق میں صدقہ بنتا ہے۔“ (محلہ ”فاروق اعظم“۔

مرتبہ محمد محب اللہ نوری۔ مطبوعہ بصیر پور۔ س ن۔ ص ۲۵)

ہم پسلے عرض کرچے ہیں کہ سیرت کی کتاب لکھنے والا ہر صاحب علم پسلے سے یہ طے کر لیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی حیثیت میں بھی کھاتا پیتا نظر نہیں آتا چاہیے، اس لیے دوسری معلومات کی طرح زمین کے بارے میں بھی معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ بہرحال، متذکرہ بالا دو تین واقعات سے یہ اندازہ تو ہو ہی سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس پبلو سے بھی غریب نہیں تھے۔

جانور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھے

اوٹ

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوٹنیوں کا تذکرہ پسلے آچکا ہے۔ یہ بات بھی سامنے آچکی ہے کہ قصویٰ اوٹنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز رفیق حضرت ابو بکرؓ سے لی تھی اور قیمت دے کر لی تھی۔ قیمت بھی اتنی کہ شاید اتنی قیمت اور کوئی نہ دستا۔ پھر یہ بات بھی لکھی جا چکی ہے کہ غزوہ صفویان حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مدینہ طیبہ پنجخانے کے دس دن بعد یا ایک سال بعد ہوا۔ اس واقعے میں جو اوٹنی کُرز بن جابر فہری لے گیا تھا، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوٹ بھی تھے۔

اس سے یہ بات تو اظہر من الشس ہے کہ جب بھرت کا موقع آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عُرُت اور حنگستی کی کمائی مجموع ہو گئی۔ لیکن کہنے والے پھر بھی کچھ نہ کچھ کے جاتے ہیں۔ مثلاً عبد القدوس ہاشمی کہتے ہیں۔ ”اللہ کے پچھے رسول“ اور انسانیت کے اس محترم اعظم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

وسلم) نے جب کفارِ مکہ کے مظالم سے بچنے کے لئے طرف بھرت فرمائی تو نہ کوئی سرمایہ آپؐ کے پاس تھا، نہ زاد سفر، نہ کوئی جائیداد منقولہ.....” (ماہنامہ ”فاران“ کراچی۔ سیرت نمبر۔ جنوری ۱۹۵۶۔ ص ۱۳۲)

اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ تھا تو اونٹ کیسے خرید لی تھی اور مدینہ طیبہ آکر چند دن بعد ہی ان کے پاس اوٹ کماں سے آ گئے تھے۔

بہرحال، اس ملے میں پسلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے۔ یہ بھی یاد دلایا جا چکا ہے کہ غزوہ غابہ یا ذی قرد کے واقعے میں جو میں اوٹنی چڑائے گئے تھے، وہ بھی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھے۔ (الشاهد۔ حکیم رحمن علی۔ مطبوعہ مطبع منشی نو لکشور، لکھنؤ۔ اگست ۱۹۰۶۔ ص ۱۳۱) یہ اوٹ جیسا کہ پسلے آچکا ہے، حضرت یسرا رائی چراتے تھے۔ اصحاب فی تمیز الصحابة میں این حجر کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمیؓ کا نام حرب تھا، یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے غلام تھے اور یہ آپؐ کے اوٹنؤں کو چرایا کرتے تھے۔ (غلامانِ محمد۔ ص ۱۵۰)

غابہ، مدینہ اور مکہ کے درمیان تجارتی شاہراہ کے قریب عفان سے آٹھ میل پرے واقع چراغاہ تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹیں اوٹنی عینیت لے گیا تھا اور سلمہ بن اکوئے نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ ڈاکٹر محمد یاسین مظہر صدقی نے اپنی کتاب ”عبد نبوی“ میں ”تنظيم ریاست و حکومت“ میں لکھا ہے کہ اس چراغاہ کے علاوہ ایک اور چراغاہ کا ذکر ان الفاظ میں ملتا ہے۔ ”رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور چراغاہ“ جمی“ ایک مضافاتی مقام پر واقع تھی جس کو ”دوا بدر“ کہا جاتا تھا اور وہاں آپؐ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اوٹنی بلکہ اوٹنیاں بھی (لقاح) چراکرتی تھیں۔ وائدی کے مطابق یہ چراغاہ

میں سے آٹھ میل دور واقع تھی جبکہ ابن سعد کا خیال ہے کہ وہ قبا کے نواح میں شرمنی (علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) سے صرف چھ میل دور تھی" (نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۵۔ ص ۴۹)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کو چرانے کے سلسلے میں مغیرہ بن شعبہ کا نام بھی آتا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ جب وفد ثقیف جو چھ افراد پر مشتمل تھا، مدینہ کے قریب پہنچا اور قبادہ میں نہرا توہاں مغیرہ بن شعبہ کو پیا جو اپنی باری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ چڑا رہے تھے (سیرت النبی کامل مرتبہ ابن ہشام۔ جلد دوم۔ ص ۲۳۹ / مارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۱۰۲۳) مطلب یہ کہ قبادہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ تھے۔ اگرچہ بعض سیرت نگاروں کو یہ جان کر پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیوں تھے، ان کے پاس تو ہم نے کچھ رہنے نہیں دیا، یا رہنے نہیں دیتا ہے، پھر یہ اونٹ کہاں سے آگئے۔ یہ سوچ کر ایسے حضرات کوئی دلیل یا ثبوت لائے بغیر کچھ اور ارشاد فرمادیتے ہیں۔ مثلاً غلام احمد حریری کہتے ہیں کہ "حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنی باری کے دن صحابہ کے اونٹ چڑا رہے تھے" (غلام احمد حریری۔ سیرت سورانیا۔ ص ۲۱۳۔ حاشیہ)

علامہ قطلانی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اوپنی قصوی تھی جس پر آپ نے کہ مظہم سے مدینہ منورہ بھرت کی تھی۔ اور ایک اوپنی عضبا تھی اور ایک جدعا تھی (سیرت محمدیہ۔ جلد دوم۔ ص ۳۹۶ / ۳۹۷) ابن قیم بھی ان تینوں کو الگ اونٹیاں قرار دیتے ہیں۔ "تین اونٹیاں جن کے نام 'قصوا'، 'جدعہ' اور 'عضبا' تھے، آپ کی سواری کے لیے مخصوص تھیں (کتاب المعارف۔ ص ۷۷) مروی ہے کہ عضبا سے کوئی اوپنی سبقت نہیں لے جاتی تھی (مارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۱۰۲۳) بعض ارباب سیرتے ان

تینوں اونٹیوں کو ایک ہی بتایا ہے۔ وہی، 'سوچا ہو گا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جیسے غریب شخص کے لیے ایک اوپنی کم ہے، تین اونٹیں کیا کہنی ہیں۔

قصوی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خریدی تھی۔ عضبا کے بارے میں پورا واقعہ معین واعظ کا شفی "معارج النبوت فی مارج الفتوت" میں یوں لکھتے ہیں: ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو صدقہ کی تلقین فرمائے تھے کہ ایک اعرابی آپنچا جس کے پاس برا خوب صورت اوتھ تھا۔ برا خوش رفتار اور خوش خرام۔ اس نے اسے ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ سحری کے وقت جب حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) گھر سے نکلے تو یہ اونٹ فصح و بلیغ انداز میں پڑھ رہا تھا: **السلام عليك يا زين القیامه، السلام عليك يا شافع الامم، السلام عليك يا قائد المؤمنين في القيامة، السلام عليك يا رسول رب العالمين**" حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات سنتے ہی اونٹ کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا حال پوچھا تو کہنے لگا۔ یا رسول اللہ! میں اس اعرابی کے پاس تھا وہ مجھے ایک سُنسان جنگل میں پاندھ دیا کرتا۔ رات کے وقت جنگل کے جانور میرے اور گرد جمع جاتے اور کہتے "اے نے چھیڑنا" یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے۔ میں اس دن سے آپ کے بھروسہ فراق میں تھا۔ آج اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ آپ تک پہنچا ہوں۔ آپ نے اونٹ کی یہ باتیں نہیں تو بڑے خوش ہوئے اور اس کی طرف زیادہ اتفاقات فرمائے گئے اور اس کا "عضا" رکھا۔ ایک روز عضبا نے کہا "یا رسول اللہ صلی اللہ علیک و سلم مجھے آپ سے ایک درخواست کرنا ہے۔ آپ نے پوچھا۔ وہ کیا۔ عرض کی "آپ اللہ سے یہ بات منظور کرو لیجیے کہ جنت میں مجھے آپ کی سواری بنایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری پشت پر کوئی دوسرا

سواری نہ کر سکے۔ آپ نے اُسے یقین دلایا کہ تمہاری پشت پر کوئی سواری نہ کر سکے گا سوائے میرے۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلا کرو میست کی کہ عفیا پر میرے بعد کوئی بھی سواری نہ کرے کیونکہ میں نے اس سے عمد کیا ہوا ہے۔ بیش! تم خود اس کی دلکشی بھال اور مگر انی کرنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اونٹ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور آپ کے فراق میں گم شُم رہنے لگا۔

ایک رات حضرت فاطمہ "اس اونٹ کے نزدیک سے گزرس۔ وہ اونٹ آپ کو دیکھ کر یوں گویا ہوا "اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحزادی! جب سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، میں نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے۔ خدا کرے کہ مجھے موت آئے، کیونکہ مجھے اس زندگی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی زیادہ پسند ہے۔ میں حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں رہا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی پیغام ہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پچھا دوں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا اونٹ کی یاتوں پر بڑی معموم ہوئیں اور رونے لگیں۔ اونٹ کے سر کو اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے ہاتھوں کو اس کے چہرے پر ملنے لگیں۔ کہتے ہیں، اسی حالت میں اونٹ نے جان دے دی۔ علی الصباح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس کے لیے کفن تیار کرایا اور ایک گمراہ گڑھا کھدو اکردن کر دیا۔"

غور طلب بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ "اونٹ کے مرنے کے تین دن بعد اس گڑھے پر تشریف لا میں اور قبر کو احاطہ نے کا حکم دیا۔ اس گڑھے میں اونٹ کا نام و نشان نہ تھا۔ گوشت، پوست اور ہڈیاں بھی غائب تھیں۔ (معارج

النبوت۔ جلد سوم۔ ص ۶۰۱)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ غائب کی اونٹیوں سے ہرات دو مشکلے دو دوہ لایا جاتا تھا جو حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اہل عیال کے خرچ میں آتا تھا۔ (مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۳۰۳)

علامہ قسطلانی اور شیخ محقق نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ۲۵۵۔ اونٹیاں دو دوہ دینے والی تھیں جو حضرت سعد بن عبادہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تھیں (سیرت محمدی۔ جلد دوم۔ ص ۳۹۷ / مدارج النبوت۔ ص ۴۰۳۳ / انوار محمدی۔ ص ۲۳۲) یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اگر کوئی شخص ہدیہ پیش کرتا تھا تو آپ جواب میں اسے بھی ہدیہ عطا فرماتے تھے۔ یہ نہیں کہ ہدیہ کو "مُفْتَأ" سمجھ کر استعمال فرمائیتے ہوں۔ مثلاً شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا چوتھا گھوڑا الجیعت تھا، اسے ربیع بن ابی البراء نے ہدیہ کیا تھا اور حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے چند اونٹ اس کے عوض عطا فرمائے تھے (مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۴۰۳۳)

پہلے یہ بات آچکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ کے جواب میں ہدیہ عطا فرمایا کرتے تھے اور اگر کوئی یہ جوابی ہدیہ وصول نہیں کرنا چاہتا تھا، تو ناراضی کا اظہار فرماتے تھے۔ اور جب ایک گھوڑے کے عوض آپ نے چند اونٹ ہدیہ فرمائے تو اس سے واضح ہو گیا کہ سیرت نگار حضرات کے قائم کردہ اس تصویر کی عمارت تو سلامت نہیں رہتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی زندگی کا انحصار ہدایا پر تھا۔

گھوڑے

ابن قیۃ لکھتے ہیں کہ اُحد کے دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جس گھوڑے پر سوار تھے، اس کا نام سَکب تھا۔ اس کے علاوہ ملاد، مرتجو، لراز، لحیف اور الورد بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھوڑوں کے نام تھے (کتاب المعارف۔ ص ۷۷)

سَکب کے بارے میں ہے کہ دس اوپرے میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خرید فرمایا۔ ایک اوپرے چالیس درہم کا ہے (عبد الرحمن ابن جوزی۔ البُنی الاطہر۔ ص ۴۰۵) اب ذرا یہ یاد کیجئے کہ حضرت خدیجہؓ الکبریؓ سے نکاح کے موقع پر بعض سیرت نگار حضرات صرف بارہ یا ساٹھے بارہ اوپرے مرقرار دیتے ہیں اور وہ بھی حضرت ابوطالبؓ سے دلوادیتے ہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تو ان کے خیال میں اتنے غریب تھے کہ شاید اوپرے انھوں نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو۔

شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دس گھوڑے تھے۔ انھوں نے ہر گھوڑے کا نام لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ کمال سے لیا، اس کی نسل کیا تھی، اس کی خصوصیات کیا تھیں..... وغیرہ۔ ان کے نزدیک دسوں گھوڑوں کے نام یہ ہیں۔ سَکب۔ مرجو۔ لراز۔ لحیف۔ درود۔ ضریس۔ ظرف۔ ملاد۔ ابھ۔ سحر۔ اس کے بعد لکھتے ہیں۔ ”یہ حضور اکرم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے دس گھوڑے ہیں جو آکثر کتب سیر میں مصور ہیں۔ بعض نے اور نام بھی بیان کیے ہیں جیسے ابلق۔ ذوالعقل۔ ذواللہ۔ مرجو۔ ملاد۔ سرحان۔ یحوب۔ تھیب۔ اوہم۔ سجا۔ سجل۔ ظرف اور مندوب وغیرہ“ (مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۱۰۳۲)

اب فرمائیے ۲۳ گھوڑوں کے مالک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پھر

غیرب کے غریب ہی رہیں اور ان کی آمدن کا کوئی وسیلہ کسی محترم سیرت نگار کو کہیں اور کبھی نظر نہ آئے تو ہم کیا کریں۔

دراز گوش (حمار)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین دراز گوش یعنی حمار تھے (مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۱۰۳۹) "الوقا باحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم" میں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے ایک دراز گوش پر سوار ہوا جس کو عفیر (میانی رنگت والا) کہا جاتا تھا۔

حضرت اُنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دراز گوش پر دیکھا جس پر اکاف ڈالا گیا۔

حضرت اُنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم علیہ الصلوٰۃ والسلام خیر کے دن اور بنو النفسیر کے خلاف کارروائی کے دن دراز گوش پر سوار تھے جس پر اکاف تھا اور اس کی لگام کھجوری تھی (الوقا باحوال المصطفیٰ) ص ۶۱۹

ایک روایت ہے کہ عفیر اور عفور ایک ہی دراز گوش تھے۔ قاضی عیاض نے عفیر کو غیر لکھا ہے مگر یہ درست نہیں (مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۱۰۳۰) شیخ محقق نے ابن عساکر کے حوالے سے عفور کے بارے میں جزئیات یوں بیان کی ہیں:

جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر فتح کیا تو ایک گدھے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کیں۔ گدھے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری جد کی نسل سے سانچھا ایسے گدھے پیدا فرمائے ہیں جن پر بجز نبی کے کسی

نے سواری نہیں کی ہے اور میں خواہش رکھتا ہوں کہ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی سواری کا شرف حاصل کروں۔ میرے جد کی نسل میں میرے سوا کوئی باقی نہیں رہا اور آپ کے سوا کوئی نبی بھی اب آنے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا، آپ سے پہلے میں ایک یہودی کے قبضہ میں تھا۔ جب وہ مجھ پر سواری کا ارادہ کرتا تو میں قصداً "اچھل کر اسے گرا دیتا اور اسے اپنے اوپر سوارنہ ہونے دیتا۔ وہ یہودی غصے میں مجھے بھوکار رکھتا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا۔ آئندہ تیرا نام "عفور" ہو گا۔ یہ عفور آپ کی خدمت القدس میں حاضر رہتا۔ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کسی کو بلانے بیحیجے تو وہ اس کے دروازے پر چلا جاتا اور اپنے سر سے دروازے کو کوٹتا۔ جب مالک مکان باہر آتا تو وہ اشارہ کرتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے بلایا ہے اور وہ اسے لے کر آ جاتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو عفور نے رنج اور فراق کے غم میں کنوئیں میں چھلانگ لگا کر خود کو مار ڈالا۔ (مدارج النبوت۔ جلد اول۔ ص ۳۳۶ / مدارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۱۰۳۰، ۱۰۳۱)

خچر

"النبی الاطھر" میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خچر تھا جس کے نام شبیا اور دلدل تھے (النبی الاطھر۔ ص ۷۷، ۱۰۸، ۱۰۸۴)

حضرت عباس بن عبد الملک رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں جگہ خنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا (وقت طور پر بعض مسلمان پیچے ہے اور صحنیں نوٹ گئیں اور مجاہدین مختلف، مکڑیوں میں بٹتے جہاں سرورِ عام صلی اللہ علیہ وسلم بر سر پیکار تھے۔ وہاں) آپ کے ساتھ صرف

میں تھا یا ابوسفیان بن الحارث بن عبد الملک رضی اللہ عنہ۔ ہم آپ سے جدا نہ ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید چپر سوار تھے جس کو فردہ ابن نفاذ نے آپ کی خدمت میں بطور پدیدہ پیش کیا تھا۔

امین بن بنات سے مقول ہے کہ جب حضرت علی الرتفی رضی اللہ عنہ سے نہروان میں خوارج کے ساتھ جنگ کی اور انہیں قتل کیا تو آپ اس وقت بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید چپر سوار تھے۔ (الوقا۔ ص ۶۱۹)

”دارج النبوت“ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چپر متعدد تھے۔ ایک کا نام دلمل تھا۔ ایک اور چھر تھا جسے فضد کہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ دلمل اور فضد ایک ہی ہے۔ یہ بات اس قول کے زیادہ موافق ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دلمل سفید تھا، شبانہ تھا۔ ایک چھر اور تھا جسے ایڈہ کہتے تھے (دارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۷-۱۰۳۹)

بکیاں اور بھیڑیں

علامہ احمد بن محمد بن ابی بکر الخلیف القسطلاني شافعی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سو سات گوسپند اور بکیاں تھیں جنہیں جنہیں ام ایمن رضی اللہ عنہا چراتی تھیں (سریت محمدیہ، ترجمہ المواہب اللدنیہ۔ جلد دوم۔ ص ۳۹۸ / انوار محمدیہ۔ ص ۲۳۲، ۲۳۳) عبد الملک بن عثمان نیشاپوری لکھتے ہیں کہ بنی کشمیم علیہ السلام کے پاس ایک سو بکیاں تھیں۔ حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی پیاری بکیاں جو قابل ذکر ہیں، سات تھیں۔ حضرت ام ایمن چڑانے کو لے جاتی تھیں۔ ان بکریوں کے نام مجده، زمزم، سیقا، برک، اطلال اور الحراف تھے۔ ایک بکری جس کا دودھ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بڑے شوق سے پیتے تھے، غیثہ تھی۔ (شرف النبی۔ ص ۳۴۹، ۳۴۸) شیخ عبدالحق بھی

دودھ والی سات بکریوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں ام ایمن چراتی تھیں اور جس گھر میں حضور اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) شب باشی فرماتے، وہاں ان کا دودھ لے کر آتیں (دارج النبوت۔ جلد دوم۔ ص ۱۰۳۳)

حضرت خالد بن یزید منبی نے روایت کی ہے، حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر والوں کے یہاں شام کو بکیاں آتی ہیں اور ان کے یہاں رہتی ہیں، فرشتے ان کے لیے رات بھر صبح تک اور دن بھر دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں (اسد الغایہ فی معرفت الصحابة۔ جلد ۳۔ ص ۳۲۔ اردو ترجمہ از عبد الشکور لکھنؤی) اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول رہا ہو گا کہ آپ کے پاس بکیاں ضرور رہیں۔

قارئین محترم سے التھاں ہے کہ خدا کے لیے غور فرمائیں، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت نہ فرماتے تو کیا اس حد تک امیر ہو کتے تھے کہ آپ کے پاس بیسمیلوں اونٹ ہوں، میں تک گھوڑے ہوں، چمگ ہوں، دراز گوش ہوں، بکیاں اور بھیڑیں ہوں۔ اور کیا یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو غریب قرار دنام مناسب ہے؟ اس صورت میں ایک مرتبہ پھر عبد القدوس ہاشمی کی یہ تحریر پڑھے ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اس تجھے پہنچتے ہیں کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ کوئی ایسی جائیداد پیدا کی جو آمنی کا ذریعہ ہوتی اور نہ کبھی نذر انوں پر زندگی بسر کی۔ وراشت میں بھی آپ کو کوئی جائیداد نہیں ملی۔ کسی سے زرعی یا غیر زرعی ایسی جائیداد کا ہبہ بھی قبول نہیں فرمایا جو آمنی کا ذریعہ ثابت ہوتی۔ بلکہ ساری عمر اپنی محنت و مزدوری سے زندگی بسر کرتے رہے۔ اس میں کوئی عکس نہیں کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی دلتندی سے آپ کو یہ موقع ضرور مل گیا کہ آپ کسی دوسرے کے مال تجارت

اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترکے میں تجارت کا پیشہ بھی ملا تھا اور تجارت کا سامان بھی۔ اور، پلے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پرورش کرنے والوں اور پھر خود آپ نے اس پیشے کے ذریعے خوشحالی کی زندگی بسر کی۔ نہ آپ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے ثروت مندی یوہ سے اس لیے شادی کی تھی، نہ ان کے مال پر تصرف اختیار فرمایا۔ بلکہ کچھ خود اور کچھ اپنے شرکاء تجارت کے ذریعے کاروبار کرتے رہے اور اس کے ذریعے ایسی فارغ البالی کی زندگی بس فرمائی۔ جس کے تینجی میں ہمیشہ مغلوب الحال، غریب، مسکین، یتیم اور مسافر لوگوں کی امداد و اعانت فرماتے رہے۔

ہدیوں کے بارے میں ہمارے محترم قلم کاروں نے یہ تأثیر گرا کرنے کی سی فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزارا انھی پر تھا۔ کہیں سے کچھ آ جاتا تھا تو کھا لیتے تھے ورنہ صبر شکر سے کام لیتے تھے۔ اس کے بارے میں بھی گزشتہ صفات میں ثابت کیا جا چکا ہے کہ ہدایا کے جواب میں آپ بھی ہدایا عنایت فرماتے تھے اور عام طور پر زیادہ عطا فرماتے تھے۔

اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک بات رہ گئی ہے کہ غنائم نے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو فقر معاش سے بیکانہ کر دیا تھا۔ اس کا بھی تجربہ کیے لیتے ہیں۔

قرآنِ پاک میں ہے ”اور جان لو، جو کچھ غنیمت پاؤ، اس کا پانچواں حصہ خاص اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مذہبیز کے دن، ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے“ (انفال: ۸-۳۱)

مولانا مودودی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں۔ ”یہاں اس مال غنیمت

کو لے کر سفر کرنے اور اجرہ محتاط حاصل کرنے کی بجائے خود اُمُّ المؤمنین کے مال کو لے کر جاتے۔ اگرچہ اس زمانے میں بھی آپ نے دوسروں کا مال مقررہ اجرہ پر فروخت کرنے کی مزدوری کی ہے لیکن یہ عموماً اسی وقت ہوا ہے جبکہ آپ اُمُّ المؤمنین کا مال تجارت لے کے کہیں تجارتی سفر کو روانہ ہو رہے ہوتے تھے۔“ (ماہنامہ ”فاران“ کراچی۔ سیرت نبیر۔ جنوری ۱۹۵۶ء۔ ص ۱۲۵ / ماہنامہ ”خاتون پاکستان“ کراچی۔ رسول نمبر کاروڑ سراحدہ۔ ص ۱۵)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت سے کیا لیتے تھے؟

جس ہستی کو ترکے میں بھی کچھ نہ ملے، جس شخصیت کو غریب اور مغلوب الحال بھی کر حیمہ جیسی کمزور و ناتوان والی بھی اس کے گھر کا رخ نہ کرے، جیسیں زندگی بھر میں ایک آرہ پار چار اونٹ یا ایک اونٹ کی اجرت پر کام ملے، جن کے بارے میں اتنا تو لکھ دیا جائے کہ انہوں نے تجارت کو پیشے کے طور پر اپنایا، لیکن اس کی تفصیلات فراہم نہ کی جائیں بلکہ عملًا یہی تأثیر دی جائے کہ ان کے پاس کمالی کی کوئی صورت کبھی نہ بنی تھی۔ اگر ان کی کتابوں میں سے ان کی مالی خوشحالی کے بارے میں کچھ نظر اُرمل جائیں تو اسے کیا کہیں گے۔

اگر ان کے بارے میں یہ کہا جانے لگے کہ ایک مالدار یوہ سے شادی کے بعد ان کے معاشی مسائل ہو گئے تھے، یا تفصیلات دیئے بغیر یہ ثابت کیا جانے لگے کہ ہدایا اور غنائم پر ان کی معاشی زندگی کا انحراف تھا تو کیا ہم ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں؟ حقیقت یہی ہے، جیسا کہ گزشتہ صفات میں کہا جا چکا ہے کہ حضور صلی

کی تقسیم کا قانون بتایا گیا ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ اللہ کا انعام ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا حصہ تو کہا گیا لیکن اسے قربت داروں، تیمبوں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے جائز قرار دیا گیا۔

کی تقسیم کا قانون بتایا گیا ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ یہ اللہ کا انعام ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہی کو حاصل ہے۔ اب وہ فیصلہ بیان کر دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ لا ایسے کے بعد تمام سپاہی ہر طرح کا مالِ نعمت لا کر امیریا امام کے سامنے رکھ دیں اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھیں۔ پھر اس مال سے پانچواں حصہ ان اغراض کے لیے نکال لیا جائے جو آیت میں بیان ہوئی ہیں اور باقی چار حصے ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیئے جائیں جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا ہو۔ (تفہیم القرآن۔ جلد ۲۔ ص ۳۵)

اگر اس کی تفسیر میں کہیں یہ مراد لیا جاتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالِ نعمت کے پانچوں حصے کو جسے اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور اقریاء ہتھی، مسکین اور مسافروں کے لیے الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں سے سرکار علیہ الصلوٰۃ والسلام کچھ یا بہت کچھ حاصل کرتے تھے تو نہ اس کے شوہد ملتے ہیں، نہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے مطابق ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تو زندگی بھر تجارت کے ذریعے جو کچھ کماتے رہے، وہ بھی اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بجائے غراہ اور مسکین پر خرچ فرماتے رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جو کئی کئی دن چولھا نہ جلنے یا کھانے کو کچھ نہ ہونے یا پیٹ پر پھر باندھنے کی مشاہد ملتی ہیں، اس سے مراد یہ قطعاً نہیں کہ ان کی آمدن کچھ نہیں تھی۔ اس کا واحد مطلب یہ ہے کہ وہ سب کچھ حاجت مندوں میں تقسیم فرمادیتے تھے اور خود بھوکے سورتے تھے۔

جو ہتھی اپنی کمالی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بجائے غریبوں مسکینوں کی حاجت روائی میں لگادیتی تھی، اس پر یہ گمان کیسے کیا جاسکتا

ہے کہ وہ مالِ نعمت کے اس پانچوں حصے کو اپنے تصرف میں لاتے ہے اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا حصہ تو کہا گیا لیکن اسے قربت داروں، تیمبوں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے جائز قرار دیا گیا۔

خس اور فٹی کے بارے میں واضح طور پر یہ بات سُنْنَةُ الْبُوْدَاوَدِ میں موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے قریب ہوئے اور اس کے کوہاں سے ایک بال لے کر فرمایا۔ اے لوگو! میرے لیے اس فٹی میں سے کوئی چیز نہیں اور نہ یہ، اور اپنی انگشت مبارک الہمّا، مساویٰ خس کے۔
--- جبکہ خس بھی تمہاری طرف ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔ پس دھاگا اور سوئی بھی ادا کر دو (مکملۃ المساجع۔ مترجم۔ کتاب آداب السنّۃ۔ باب تسدیف الغنائم و الغلوں نیحا۔ حدیث نمبر ۳۸۳۶)

مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بستی میں تم پانچوں اور اس کے اندر قیام کرو تو اس میں تمہارا حصہ ہے اور جو بستی اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی نافرمانی کرے تو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ہے۔ پھر وہ تمہارے لیے ہے (مکملۃ شریف۔ کتاب آداب السنّۃ۔ حدیث نمبر ۳۸۲۷)

حقیقت یہ ہے کہ غنائم میں سے اللہ نے کچھ لیا، نہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بلکہ ان کا پانچواں حصہ غریبوں، مسکینوں، تیمبوں، قربتداروں اور مسافروں کو دے دیا جاتا تھا۔

ایک متفق علیہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے انعام عطا فرمایا، اس کے علاوہ جو خس میں ہمارا حصہ تھا، پس مجھے ایک شارف بھی ملی (شارف

عمر رسیدہ اور نبی کو کہتے ہیں) (مکہٰ شریف۔ کتاب آداب السفر۔ حدیث نمبر ۳۸۲

پروفیسر خالد علوی لکھتے ہیں۔ ”اس مال (غیمت) کی تقیم کا قانون بنادیا کہ پانچواں حصہ خدا کے کام اور اس کے غریب بندوں کی مدد کے لیے بیت المال میں رکھ لیا جائے اور باقی چار حصے اس پوری فوج میں تقیم کر دیئے جائیں جو لذائی میں شریک ہو۔“ (دوماہی ”اسلامی تعلیم“ لاہور۔ جنوری فروری ۱۹۷۳ ص ۲۵)

اس سے واضح ہوتا ہے کہ خمس مال غیمت کا پانچواں حصہ تھا، یہ اللہ اور رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے نام پر غریبوں اور مستحقین میں تقیم ہوتا تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے۔

حضور کا بھوکارہنا اس کی دلیل نہیں کہ آپؐ کے پاس کچھ نہ تھا

بت سی احادیث موجود ہیں، کتب سیر بھری پڑی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کئی کئی دن کھانا نہیں پکتا تھا۔ بخاری میں اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آل محمدؐ نے جو کی روٹی، پیٹ بھر کے، پے در پے دو دن کبھی نہیں کھائی (ماہنامہ ”صدائے اسلام“ پشاور۔ جون ۱۹۷۹ ص ۸) تیز فرماتی ہیں ”ہم پر ایک ایک مینا گزر جاتا تھا کہ ہم آگ نہیں جلاتے تھے۔ کبھو اور پانی انھی دو چیزوں پر گزارا ہوتا تھا۔“ تندی میں ہے، ”ابن عباسؓ فرماتے ہیں، ”حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گروالے تین تین دن فاتحے سے گزار دیتے تھے۔“ قزوینی کے مطابق حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے کچھ اون کالباس پہنا ہے۔ جو کاموٹا آٹا کھایا ہے اور موٹا جھوٹا پہنا ہے“ (ماہنامہ

”خاتونِ پاکستان“ کراچی۔ رسول نمبر۔ ۳۸۲ ص ۲۳۸۔ خالد وحید نہیں لکھتے ہیں۔ ”سوال یہ ہے کہ خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مادر بنا�ا تھا۔ اس نے آپ کو فارغ البالی بخشی تھی۔ اس نے آپؐ کو بہت کچھ دینے کا وعدہ فرمایا تھا تو اس کے باوجود آپؐ کی اور آپؐ کے گروالوں کی زندگی کا یہ انداز کیوں تھا؟ اس سوال کے جواب میں وہ کئی واقعات نقل کرتے ہیں مثلاً آپؐ نے حضرت اُمُّ سلمہؓ سے پوچھا کہ جو سات رنگار کل شام سے گھر میں پڑے ہیں، وہ اب تک خرج کیوں نہیں ہوئے (مُسْنَدِ احمد) تندی میں ہے، ”حضرت اُسؓ فرماتے ہیں، ”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کل کے لیے کچھ پچا کر نہیں رکھتے تھے۔ بخاری اور نسائی میں ہے، ”حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز کے بعد بھاگم بھاگم جمرے میں تشریف لے گئے۔ بعد میں لوگوں سے پوچھا تو فرمایا کہ مجھے وہ تحوڑا سا سوتا یاد آگیا تھا جو گھر میں تھا، مجھے ڈر ہوا کہ اس سونے پر ہمارے گھر ہی میں رات نہ گزر جائے۔ میں کہنے گیا تھا کہ رات ہونے سے پہلے پہلے اسے ضرورت مندوں میں تقیم کر دو“ (خاتونِ پاکستان۔ رسول نمبر ۳۸۲ ص ۲۳۸۔ مضمون ”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی“ از خالد وحید نہیں۔ ص ۲۳۳)

محظوظ سردار نجاری کہتے ہیں۔ ”حضور سرورِ کائنات مجھ مصطفیٰ احمدؐ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عرب کے زیر نگیں ہو جانے اور دس لاکھ مرد میل علاقے پر تسلط ہو جانے کے بعد اگر چاہتے تو ہر قسم کی شاہانہ شان و شوکت رکھ سکتے تھے۔“ گر آپؐ نے آخر وقت تک نہ خود اس اقتدار اور دولت سے فائدہ اٹھایا اور نہ اپنے خاندان والوں کو اس سے استفادہ کرنے دیا“ (محظوظ سردار۔ مامن یعنی متوازن اسلامی نظامِ معیشت۔ مطبوعہ سکھر۔ ص ۱۵) محمد صدیق ہزاروی کتب سیر و حدیث کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ

اور کیا غیر مسلم عرب مثلی تاجر تھے اور وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ چنانچہ عسکری مہموں کے دوران بھی ان کا معمول تھا کہ وہ اپنا تجارتی سامان ساتھ لاتے تھے اور موقع ملنے پر تجارت کا بازار بھی گرم کرتے تھے۔ مسلم تاجروں نے خبر کے غزوہ کے دوران تجارت کی تھی اور بڑا منافع کیا تھا۔ غالباً "انہوں نے دوسری مہموں کے دوران بھی اپنے اس معمول کو ترک نہیں کیا تھا (نقوش۔ جلد ۵۔ ص ۴۲۲، ۴۲۵) المواہب اللدنسیہ میں ہے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مقام بدر میں (غزوہ بدر موعد کے وقت) آئندہ دن قیام فرمایا۔ اصحاب کے ساتھ جو کچھ مال تجارت کا تھا، اس کو انہوں نے فروخت کیا (سیرت محمدیہ۔ جلد اول۔ ص ۳۹۶، ۳۹۷)

باقر الصدر لکھتے ہیں کہ اس دور کے تجارت سرمایہ وارانہ انداز کے عادی نہیں تھے بلکہ محنت کش تھے اور خود سامان فراہم کیا کرتے تھے (شید باقر الصدر۔ اسلامی اقتصادیات کا جائزہ۔ مطبوعہ ایران۔ محرم الحرام ۱۴۰۳ھ۔ ص ۱۳۷)

صحابہ کرام جن کا پیشہ تجارت تھا، وہ ہر موقع پر تجارت کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت سے کیوں صرف نظر فرماتے اور ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود کتابوں ہی کو کھڈیڑ کر واقعات جمع کیے ہیں جن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر ادھر ادھر سے ہدیے کے طور پر آئے ہوئے پر گزارا نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے خود تجارتی اسفار اور تجارتی تک و دو کے ذریعے اور بعد میں اپنے شرکاء تجارت کے ذریعے مال اسباب کی خرید و فروخت کے ذریعے کماتے تھے اور ڈھیروں کماتے تھے۔ صرف اتنا ہے کہ وہ یہ مال اپنے اور اپنے اہل و عیال کے بجائے غیر اور مستحقین میں تقسیم فرمادیا کرتے تھے۔

جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھوکارہنے کے بہت سے نظائر ہمارے سامنے ہیں، اور کئی کئی دن چولھے میں آگ نہ جلنے کی خبر ملتی ہے، وہاں آپؐ کے خوش خوارک ہونے کے بھی بے شمار واقعات احادیث و سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، "بُنِيَ أَكْرَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ایک حدیث مبارک ستائیں اونٹوں کے عوض خریداً، اور اسے زیب تن فرمایا۔ آپؐ کے پاس ایک سرخ چادر تھی جسے عیدین کے موقع پر استعمال فرماتے۔ اسی طرح ایک بزرگ کی چادر جو چار ہاتھ لمبی اور اڑھائی ہاتھ چوڑی تھی، مختلف وفوکی آمد پر زیب تن کی جاتی..... (ماہنامہ "الجامعہ"۔ سیرت نبراکتور نومبر ۱۹۸۶ء۔ ص ۳۰۰)

حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر تجارت کی اور اس سے اتنا کمایا جو کوئی اچھا خوشحال اور رثوت مند تاجر کا سکتا تھا لیکن آپؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمدن میں ہے کم سے کم مال اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا، سب کچھ حاجت منہوں، غریبوں میں تقسیم فرماتے رہے اور اپنے لیے فقر و فاقہ کو اختیار فرمایا۔ خدا کرے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کسی ایک سنت کے مبلغین کو آپؐ کی یہ سنت بھی نظر آجائے اور وہ روکھی سوکھی پر گزارا کرنے کی اہمیت سمجھیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حالت فقر و فاقہ صدقی صد اختیاری تھی، آپؐ کسی مرحلے پر بھی غریب نہیں رہے، آپؐ نے کبھی تجارت سے منہ نہیں موڑا، آپؐ کے پاس کبھی کم مال نہیں آیا۔

ذاکریا میں مظہر صدقی لکھتے ہیں کہ مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر الموعد کے موقع پر مسلمان تاجر اور محلہ تجارتی سامان بدر کے مقامی بازار میں لے کر گئے تھے اور خوب منافع کیا تھا۔ یہ حقیقت بڑی اہم ہے کہ کیا مسلم

اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کو عکس و تجدیدی کا نمونہ دکھانے والے محترم حضرات نے حقائق سے آنکھیں چڑائی ہیں، جان بوجہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ثابت کرنا چاہا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر کچھ کام نہیں کیا، یا بہت کم کام کیا ہے یا زندگی کا زیادہ حصہ مولویوں اور پیروں کی طرح ہدایا پر اور مدنی دور میں غنائم پر گزر برکی ہے۔
کیا اب چودہ سو سال کے بعد بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم تحقیق کے سمندر میں غواصی کر کے حقائق کے لُوٹوئے لا لا برآمد کرنے کی کوشش کریں!

مأخذ و مراجع

قرآن

* ابراء - ۱۳

* الفتح - ۲۸

* قریش - ۱۰۶

* صحیح بخاری۔ کتاب الریع۔ کتاب الصدق

* صحیح مسلم۔ کتاب الملابس۔ کتاب الحج

* سنن ابو داؤد۔ کتاب الادب۔ کتاب الجماد۔ کتاب الریع۔ کتاب النکاح

* سنن البیهقی۔ کتاب الادب۔ کتاب التجارات

* دارقطنی۔ کتاب الریع

* مکہفۃ المذاہج۔ باب الحطایا

* آسمان ہدایت کے ستر ستارے۔ طالب ہاشمی۔ الپدر جیلی کیشر، لاہور۔ دسمبر ۱۹۸۸ء

* اردو دائرہ معارف اسلامیہ۔ جلد ۳۔ جامدہ بخاب، لاہور

* اسد الغاب فی معرفت الصحابة۔ جلد اول۔ سوم۔ چہارم۔ پنجم۔ پنجم۔ نهم۔ دهم اور جلد ۱۱۔

اردو ترجمہ از عبد اللہ کورکشنٹی و غلام ربانی عزیز۔ مکتبہ نبویہ۔ لاہور

* اسلام کا اقتصادی نظام۔ محمد حفظ الرحمن۔ مطبوعہ دہلی۔ ۱۹۵۹



- * دید خادم لطیف۔ خادم اینڈ سپنٹنی، لاہور۔ س ن
- * الریجق الحجم۔ صفائی الرحمن مبارکپوری۔ اکتبہ اللہیہ، لاہور۔ اپریل ۱۹۹۰
- * الرسول۔ ویسی آر پاٹلے۔ اردو ترجمہ از ڈاکٹر ایم ایش ناز۔ کتبہ عالیہ، لاہور۔ ۱۹۹۱
- * الشاہد۔ حکیم رحمن علی۔ مشی نو کشور، کھصتو۔ اگست ۱۹۰۶
- * الہی الاطم۔ عبدالرحمن ابن جوزی۔ اردو ترجمہ از مفتی علیم الدین نقشبندی۔ کتبہ محمدیہ سلطانیہ، جملہ۔ بار اول۔ ۱۹۸۹
- * الوفا باحوال المصطفی۔ عبدالرحمن ابن جوزی۔ اردو ترجمہ از محمد اشرف سیالوی۔ فرد بک شال، لاہور۔ س ن
- * انوارِ محمدیہ (علام قسطلی کی مشہور زمانہ کتاب "الموابب اللدنیہ" کی تحقیق علام سید بن اسحیل نسبانی نے "الانوار الحمدیہ" کے نام سے کی۔ زیر نظر کتاب اس تحقیق کا اردو ترجمہ ہے تو پروفیسر غلام ربانی عزیز نے کیا) کتبہ نبویہ، لاہور۔ بار دوم۔ ۱۹۸۷
- * بلوغ الارب فی احوال العرب (عربی) جلد اول۔ مطبوعہ بغداد
- * "بیان عمل" (ماہنامہ) لاہور۔ شریکہ الحسین نمبر۔ جون ۱۹۶۶
- * بغیر اعتم و آخر۔ ڈاکٹر نصیر احمد ناصر۔ فیروز سنگھیل۔ بار اول۔ ۱۹۸۸
- * تابدارِ حرم۔ اثر فاضل۔ ادارہ فکر و نظر، کراچی۔ اشاعت اول۔ ۱۹۹۱
- * تاریخ ابن خلدون۔ حصہ اول (العرب قبل الاسلام و بعد رسالت) اردو ترجمہ از ڈاکٹر شعیت اللہ۔ محمد شمس الدین تاجر کتب، لاہور۔ میمع اول ۱۹۹۰
- * تاریخ احمدی۔ نواب احمد حسین خاں۔ حق برادرز، لاہور۔ س ن

- * اسلام کے معائی نظریے۔ حصہ اول۔ ڈاکٹر یوسف الدین۔ مطبوعہ حیدر آباد کن۔ ۱۹۵۰
- * اسلام میں ضابط تجارت۔ عبدالرحمن کیلانی۔ کتبہ السلام، لاہور۔ اشاعت اول۔ ۱۹۷۶
- * "اسلامی تعلیم" (دو ماہی) لاہور۔ جنوری فوری ۱۹۷۳
- * اسکی الطالب فی نجات الی طالب۔ ترجمہ صائم چشتی۔ چشتی کتب خانہ۔ فیصل آباد
- * اسوہ الرسول۔ جلد دوم۔ سید اولاد حیدر فوق بکراہی۔ کمیل ٹرست، کراچی۔ تیسرا بار۔ ۱۹۷۷
- * اسوہ حسن (ابن قیم جوزی کی "حدی الرسول" کا اردو ترجمہ از عبد الرزاق میمع آبادی) مجلس نشریات اسلام، کراچی۔ ۱۹۷۹
- * اسوہ حسن۔ حصہ سوم۔ منت اسلام۔ بزم بقول لاہور۔ ۱۹۸۳
- * اسوہ صحابہ۔ حصہ اول۔ ناشران قرآن، لاہور۔ س ن
- * اسوہ صحابیات۔ عبد السلام ندوی۔ دارالاشاعت، کراچی۔ س ن
- * اسحاق السیر۔ عبد الرؤوف دانا پوری۔ محمد سعید ایڈن سز، کراچی۔ س ن (دیباچے کے بعد تحریر لکھا ہے)
- * امت کی شہزادیاں۔ محمد صدیق حکومہ۔ مکتبہ سرہ، لاہور۔ ۱۹۸۵
- * الایمان (پندرہ روزہ) لاہور۔ کم و ۱۵۔ اپریل ۱۹۷۸
- * "البیان" (ماہنامہ) جامد محمد شریف جنگ۔ جنوری فوری ۱۹۷۹
- * "البیان" (ماہنامہ) جامد محمد شریف۔ سیرت نمبر۔ اکتوبر نومبر ۱۹۸۶
- * الجمائلی۔ علام جلال الدین سیوطی۔ جلد اول و دوم۔ اردو ترجمہ از راجا رشید محمود

- * تاریخ محمد۔ ایم ذی فاروق۔ ادارہ اشاعت قرآن و تاریخ اسلام، لاہور۔ ۱۹۸۸
- * خاتون پاکستان۔ (ہاتھاں) کراچی۔ رسول نبر۔ حصہ دوم
- * خاتون پاکستان۔ رسول نبر۔ اگست ۱۹۹۳
- * خطبات بہاولپور۔ ڈاکٹر محمد حیدر اللہ۔ مطبوعہ بہاولپور
- * خطبات بعد۔ وزارت ذہبی امور، اسلام آباد (مرتبہ شعبہ صحیفہ و مراجع)
- * رحمۃ للحالمین۔ جلد اول و دوم۔ قاضی محمد سلیمان سلمان منصورپوری۔ شیخ غلام علی ایڈن سنز۔ س ن
- * رحمۃ للحالمین۔ سید محمد عابد۔ محمد سعید ایڈن سنز، کراچی۔ س ن
- * رحمۃ عالم۔ سید سلیمان ندوی۔ محمد سعید ایڈن سنز، کراچی۔ س ن
- * رسالتاًب (جمال حسین کی "روضۃ الاحباب" کا اردو ترجمہ) از مفتی عزیز الرحمن۔ شزاد پیشترز، لاہور۔ ۱۹۷۶
- * رسول اکرم کی سیاسی زندگی۔ ڈاکٹر محمد حیدر اللہ۔ دارالاشاعت، کراچی۔ اشاعت ہشتم۔ ۱۹۸۷
- * رسول کریم کی جعلی ایکسپم۔ عبد الباری۔ النصل، لاہور۔ طبع اول۔ ۱۹۸۶
- * رسول نبین۔ محمد احسان الحق سلیمانی۔ مقبول اکینڈی، لاہور۔ ۱۹۹۳
- * روطنی ڈائجسٹ۔ کراچی۔ اکتوبر ۱۹۸۳
- * رہبر کامل۔ عبدالجید سودروی۔ مدینہ کتاب گھر، گوجرانوالہ۔ ایڈن ہشتم۔ ۱۹۸۳
- * رہبر کامل۔ عبد الواحد خاں۔ الجوکیشل جنگنک ہاؤس۔ دہلی۔ ۱۹۹۰
- * سرپائے القدس۔ حکیم غلام نبی۔ مکتبہ انوار طیبہ، لاہور۔ س ن

- * تاریخ محدث (شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مشورہ زبانہ کتاب "جذب القلوب الی دیار الحبوب" کا اردو ترجمہ) از حکیم سید عرفان علی۔ مقبول اکینڈی، لاہور۔ س ن
- * تذکارہ صحابیات۔ طالب المأثی۔ البدر جمل کیشتر، لاہور۔ چودھویں ایڈن۔ ۱۹۹۲
- * تاریخ حبیب الہ۔ مفتی عبایت احمد کاکوروی۔ مکتبہ مریم رضویہ، ڈسکرٹ ٹائم سیالکوٹ
- * تیس پروانے شیعہ رسالت کے۔ طالب باشی۔ البدر جمل کیشتر، لاہور۔ آنھویں ایڈن۔ ۱۹۹۱
- * جرئت صحابہ از نواز رومنی۔ مکتبہ نبویہ، لاہور۔ جولائی ۱۹۹۰
- * جنتات الشیم فی ذکر نبی الکریم۔ نظام الدین احمد جعفری۔ دلی پر جنگ در کس، دہلی۔ س ن
- * جوامع السیرة۔ ابن حزم ظاہری۔ ترجمہ از محمد سردار احمد۔ مجلس نشریات اسلام کراچی۔ ۱۹۹۰
- * حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبر۔ راجا رشید محمود۔ اختر کتاب گھر، لاہور۔ ۱۹۹۳
- * حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیچن۔ شمساز کوثر۔ اختر کتاب گھر، لاہور۔ ۱۹۹۲
- * حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ قام رفتہ۔ انقرہ محمود۔ اختر کتاب گھر، لاہور۔ ۱۹۹۳
- * حیات الحسایہ۔ جلد اول۔ ناشران قرآن، لاہور۔ س ن
- * حیات پیغمبر اعظم۔ عبد الصمد رحمانی۔ مکتبہ عالیہ، لاہور۔ ۱۹۸۷
- * حیات رسالتاًب۔ راجا محمد شریف۔ انصار بک سال، سرگودھا۔ مارچ ۱۹۸۸
- * حیات صحابہ کے درختاں پلو۔ محمود احمد غنیفر۔ نعمانی کتب خانہ، لاہور۔ جولائی ۱۹۹۲
- * حیات طیبہ میں پیر کے دن کی اہمیت۔ شمساز کوثر۔ اختر کتاب گھر، لاہور۔ ۱۹۹۱
- * حیات محمد۔ محمد حسین یکل۔ اردو ترجمہ از ابو الحسن امام خاں فوشروی۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ،

- * سرورِ عالم کے سفر مبارک۔ محمد کلیم ارجمند۔ مکتبہ تغیر انسانیت، لاہور۔ اشاعت اول۔ ۱۹۸۷
- * سرورِ کائنات۔ سید امیر علی۔ قوی کتب خانہ، لاہور۔ ۱۹۸۵
- * سید المرسلین۔ سعید اختر۔ مکتبہ کاروان، لاہور۔ تمبر ۱۹۷۶
- * سید انسانیت۔ نیم صدقی۔ ادارہ معارف اسلامی، لاہور۔ اشاعت چارم۔ ۱۹۸۹
- * سیر الحبوب۔ جلد دوم۔ صحابہ حسن حسن اول۔ جلد چشم۔ اسوہ صحابہ حسن اول از عبدالسلام ندوی۔ جلد ۱۱۔ جلد سوم۔ صحابہ حسن دوم۔ معین الدین ندوی۔ جلد ششم، ہشتم، نیم یعنی اسوہ صحابہ۔ حصہ دهم، عبد السلام ندوی۔ ادارہ اسلامیات، لاہور
- * سیر انبياء و صحابہ و تابعین (یہ ابن تجھیہ کی کتاب "العارف" کا سلام اللہ صدقی کا اردو ترجمہ ہے جو پاکستان میں تو کتاب العارف ہی کے نام سے لیکن انڈیا میں "سیر انبياء و صحابہ و تابعین" کے نام سے چھپا)
- * سیرت رسول علی۔ جلد اول۔ شاہ مصباح الدین فکیل۔ پاکستان اشیٹ آئل۔ کراچی۔ ۱۹۸۶
- * سیرت الرسول۔ شاہ ولی اللہ دہلوی۔ مکتبہ الشرف، لاہور۔ س ن
- * سیرت الرسول من القرآن۔ سید محمد رضوان و انتظام اللہ شاہی۔ سعید کپنی، کراچی۔ ۱۹۹۳
- * سیرت الحفار۔ شیخ مصطفیٰ غلامی۔ اردو ترجمہ از ملک غلام علی۔ مکتبہ تغیر انسانیت، لاہور۔ س ن
- * سیرت المصطفیٰ۔ جلد اول و دوم۔ محمد ابراء میر سیاکلوٹی۔ مکتبہ اہل حدیث سیاکلوٹ۔ جون ۱۹۸۹

- * سیرت المصطفیٰ۔ جلد اول، دوم، سوم۔ محمد اوریس کاظم حلوی۔ مکتبہ حنانیت، لاہور۔ ۱۹۸۵
- * سیرت النبی۔ شیخ نعماں۔ جلد اول۔
- * سیرت النبی کامل مرتبہ ابن حشام۔ جلد اول۔ اردو ترجمہ از عبدالجلیل صدقی۔ شیخ غلام علی ایڈن سٹر، لاہور۔ س ن
- * سیرت دھلائی۔ احمد زینی دھلان کی (کتاب کے سروق پر احمد بن زین دھلان لکھا ہے) اردو ترجمہ سامنہ پختی۔ پختی کتب خانہ، فیصل آباد
- * سیرت رسول ساجد الرحمن۔ اسلامک بک فاؤنڈیشن، لاہور۔ ۱۹۸۳
- * سیرت رسول علی۔ نور بخش توکلی۔ تاج کمپنی لائنز، لاہور۔ س ن۔ جون ۱۹۷۳
- * سیرت رسول انجیا۔ غلام احمد حریری۔ کتاب مرکز، فیصل آباد۔ س ن
- * سیرت سرورِ عالم۔ جلد اول و دوم۔ ابوالاعلیٰ مودودی۔ ادارہ ترجمان القرآن، لاہور۔ اگست ۱۹۷۸
- * سیرت طیبہ۔ شیخ نعماں۔ ترجمہ یکون سلطان شاہ بانو۔ یونیورسیٹ بکس، لاہور۔ ۱۹۸۸
- * سیرت طیبہ: رسول اللہ کی مثالی زندگی۔ الحاج امیر الدین۔ مطبوعہ ملکان۔ س ن
- * سیرت قاطرة الزہرا۔ طالب ہاشمی۔ البدرونی کیشنز، لاہور۔ س ن
- * سیرت مبارکہ محمد رسول اللہ قرآن اور تاریخ کے آئینہ میں۔ سید محمد میاں۔ مطبوعہ لاہور۔ س ن ۱۹۸۹
- * سیرت محمدی۔ ترجمہ المواہب الدینی۔ جلد اول و دوم۔ (علام قسطنطیلی) اردو ترجمہ از محمد عبدالبار آصفی۔ محمد علی کارخانہ اسلامی کتب، کراچی۔ س ن

- * سیرت صطفیٰ۔ عبد الصطفیٰ اعظمی۔ مطبوعہ ساہیوال۔ ۱۹۸۱
- * شرف النبی۔ عبداللہ بن عثمان خشاپوری۔ اردو ترجمہ از اقبال احمد فاروقی۔ ملک ایڈ کمپنی، لاہور۔ ۱۹۸۳
- * شوہد انبوث۔ علامہ عبدالرحمن جامی۔ اردو ترجمہ از بشیر حسین ناظم۔ مکتبہ نوبیہ، لاہور۔ بار دوم۔ ۱۹۷۵
- * صحابیات۔ نیاز فتحوری۔ نیس اکیدی کراچی۔ طبع بختم۔ اپریل ۱۹۸۱
- * "حدائقِ اسلام" (ماہنامہ) پشاور۔ صفر المختصر۔ ۱۹۷۰ء
- * شیاء النبی۔ جلد دوم۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری۔ بار اول۔ ۱۹۷۳ء
- * طبقاتِ ابن سعد۔ حصہ اول۔ اخبار النبی۔ از محمد ابن سعد۔ اردو ترجمہ از عبدالله الحمادی مطبوعہ کراچی۔ دوسرا ائینیش۔ ۱۹۷۳
- * عرب کا چاند۔ سوائی کلشن پر شاد۔ مکتبہ تغیر انسانیت، لاہور۔ طبع سوم۔ س ن
- * "عرفات" (ماہنامہ) لاہور۔ عید میلاد النبی نمبر۔ مارچ ۷۷ء
- * عبد نبی کے نادر و اعاقات۔ علی اصغر چودھری۔ المتراتر ایزد، لاہور۔ س ن
- * غزادت نبی۔ صطفیٰ خال بی اے۔ بیت العلوم، لاہور۔ س ن
- * غزوہ موتہ۔ محمد احمد باشیل۔ نیس اکیدی کراچی۔ مارچ ۱۹۸۲
- * غلامانِ محمد۔ محمد احمد پانی پی۔ مکتبہ کاروان، لاہور۔ بار اول۔ ۱۹۷۶
- * فاران (ماہنامہ) کراچی۔ سیرت نمبر۔ ۱۹۵۶
- * "فاروقِ اعظم" (مجلہ) مرتبہ محمد محب اللہ نوری۔ انجمن حزب الرحمن، پیغمبر پور
- * مدارج الانبوث۔ جلد دوم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اردو ترجمہ از غلام معین الدین نصیمی۔ مددہ بہشتگار کمپنی، کراچی۔ س ن
- * فتوح البلدان۔ ابو الحسن بلاذری، الازہر پرنس، قاہروہ۔ ۱۹۳۲
- * فردیشِ ادبیت۔ جعفر سعیدی۔ اردو ترجمہ از نصیر حسین۔ امامہ جملی کیہٹر، لاہور۔ بار اول۔ س ن
- * فکر و نظر (ماہنامہ) اسلام آباد۔ جون ۱۹۷۸۔ جولائی اگست ۱۹۷۹۔ مارچ ۱۹۸۳
- * فکر و نظر (سماں) اسلام آباد۔ جولائی تحریر ۱۹۸۵
- * "ذیفن الاسلام" (ماہنامہ) راویلندی۔ تحریر ۱۹۹۲
- * کتاب الجغر۔ محمد بن جیب البغدادی۔ دائرة معارف الحشمتی، حیدر آباد دکن۔ ۱۹۳۲
- * کتاب المعارف۔ ابن حکیم۔ اردو ترجمہ از سلام اللہ صدیقی۔ انگریز اور ز، لاہور۔ س ن
- (انڈیا میں یہ کتاب "سیر انجیا: صحابہ و تابعین" کے نام سے چھپی)
- * ماہِ تو (ماہنامہ) لاہور۔ سیرت نمبر و سبیر ۱۹۸۵
- * محمد (ماہنامہ) لاہور۔ رسول مقبول نمبر۔ حصہ اول
- * محفل (ماہنامہ) لاہور۔ خیر ابڑھ نمبر۔ ۱۹۸۱
- * محمد رسول اللہ۔ شیخ محمد رضا مصری۔ اردو ترجمہ از عادل قدوی۔ تاج کمپنی لیڈز، لاہور
- * محمد رسول اللہ۔ قرآن اور تاریخ کے آئینہ میں۔ مکتبہ محمودیہ، لاہور۔ جون ۱۹۸۶
- * مختصر سیرت الرسول۔ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب۔ جامد العلوم الارثیہ، جملہ۔ اردو ترجمہ از حافظ محمد اسحاق۔ اگست ۱۹۹۰
- * مدارج الانبوث۔ جلد دوم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ اردو ترجمہ از غلام معین الدین نصیمی۔ مددہ بہشتگار کمپنی، کراچی۔ س ن

* معارج النبوت فی مدارج الفتت۔ جلد اول و جلد دوم۔ ملک محسن واعظ کاظمی۔ اردو ترجمہ از اقبال احمد فاروقی و محمد الطہر نسیمی۔ مکتبہ نبوی، لاہور۔ جلد اول۔ پار دوم۔ ۱۹۸۹۔ جلد دوم ۱۹۸۸۔ پار دوم۔ ۱۹۸۹

* میرانج انسانیت۔ غلام احمد پروین۔ طلوع اسلام، لاہور۔ دو سالہ یہ شیش۔ ۱۹۶۸

* نبی اکرم کا شانہ نبوی میں۔ علی اصغر چودھری۔ مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور۔ ۱۹۸۸

* نبی رحمت۔ ابوالحسن علی ندوی۔ مجلس تحریفات اسلام، کراچی۔ پار دوم۔ ۱۹۸۱

* نبی کریم کی معاشی زندگی۔ ڈاکٹر نور محمد غفاری۔ مکتبہ ابوزر غفاری، اسلام آباد۔ طبع دوم۔ ۱۹۹۰

* نظام الشانع (ماہنامہ) دہلی۔ رسول نمبر۔ ۱۹۲۹

* نعت (ماہنامہ) لاہور۔ سرپاکے سرکار۔ حصہ دوم۔ اکتوبر ۱۹۹۵

* نقوش۔ رسول نمبر۔ جلد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸

* نوار است۔ مولانا اسلام حیرانچوری۔ طلوع اسلام رہست، لاہور۔ ۱۹۸۹

* نور اسلام (ماہنامہ) شری قبور۔ نومبر ۱۹۹۲

* نور الیسر فی سیرت خیر البشر۔ حفظ الرحمن سیوباروی۔ عارف اکیدی، گوجرانوالہ۔ س ن

* بادی اعظم۔ سید فضل الرحمن۔ مطبوعہ کراچی۔ ۱۹۹۱

* "بلال" (نعت روزہ) راولپنڈی۔ ۱۲ مارچ ۱۹۷۶

* ہمارے پیارے نبی۔ سید آن احمد رضوی۔ ماڈرن بک ڈپو، اسلام آباد۔ ۱۹۸۵



— ۱۹۹۱ کی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب —

قوسِ قزح (اسلامی موضوعات پر دھنک رنگ مضامین)

شنستاز کوثر — کی اس تقسیف میں

* حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک میں ریجع الاول کے مینے میں ہونے والے ۳۹ واقعات کا تفصیل ذکر ہے۔

* حمد میں نعت کی اور نعت میں اظہار بجز کی صورتوں پر مضامین ہیں۔

* احادیث مقدسہ کے حوالے سے مدینہ طیبہ کی اہمیت پر بحث ہے۔

* درود پاک کی اہمیت و فضیلت پر کئی مضامین میں دلاؤزیں انداز میں نئے زاویوں سے روشنی ڈالی گئی ہے۔

* انسان کے اشرف الخلوقات ہونے کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے سائنس کی تالی اور بیہمہ پر کل کٹ طیبہ لکھا ہوا ہے۔

* اسلامی تعلیمات میں عدد کی اہمیت پر بصیرت افروز معلومات دی گئی ہیں۔

* حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان القدس میں گستاخی کرنے والوں کو فنا فی النار کر کے تخت دار کو چونے والے عازیزوں کی مشترکہ خصوصیات کا تفصیل تجزیہ ہے۔

کتابت و طباعت خوبصورت، سادہ و پر کار سروت

۱۹۹۲ صفحات، قیمت پچاس روپے

ناشر

آخر کتاب گھر

اطہر منزل۔ نیو شالamar کالونی۔ ملٹان روڈ۔ لاہور (کوڈ ۵۳۵۰۰)

فون ۰۳۶۳۶۸۳

— ۱۹۹۲ کی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب —

حیاتِ طبیبہ میں پیر کے دن کی اہمیت

حضور فخر موجودات علی السلام والصلوٰۃ پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے، ہجری کے دن اعلان نبوت فرمایا، ہجری کو قبلہ تبدیل فرمایا، ہجری کو کئی غزووں میں شرکت فرمائی، ہجری کو صلح حدیبیہ فرمائی، ہجری کو مکح فتح کیا، ہجری کو جـ الوداع فرمایا، ہجری کو اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔

حضور رحمتِ ہر عالم ملی اندھیہ آزاد مل کی حیاتِ طبیبہ کے ۱۳۵ ایسے واقعات کے بارے میں تحقیق و تجسس کا شاہکار۔ محبتِ حضور (علی السلام والصلوٰۃ) کی زبان میں لکھی گئی کتاب

———— جس سے پیر (دو شنبہ) کے دن کی اہمیت ارباب عقیدت پر آشکار ہوتی ہے ان بصیرت افروز واقعات اور ان کے انداز پیکش سے متاثر نہ ہونا آپ کے بس میں نہیں ہو گا۔

شناز کوثر کی ایک تحقیق
۳۴۲ صفحات۔ قیمت ۸۰ روپے

ناشر

آخر کتاب گھر

اظہر منزل۔ نیو شالامار کالونی۔ ملٹان روڈ۔ لاہور (کوڈ ۵۳۵۰۰)
فون: ۰۳۳۳۶۸۳

ڈنیا میں نعمت کے موضوع پر بہلائی تحقیقی مجلہ ماہنامہ الفتوح

جس کی ہر شمارہ خالی فوج رہوتا ہے

ایڈٹر، راجا شریدھر مودود

پانچ برس میں تجویز مجموعات پر خالی فوج رہوتا ہے وچکائیں

جمیعتی اسلام نعمت کیلئے - مدینہ الرسول علیہ السلام تقدیر (دو شمارے)
اُذوہ کے صاحب کتاب نعمت (چار شمارے) قیصریں کی نعمت (چار شمارے) نعمتی
رسول نبیوں کا انتداب (پن شمارے) میں اللہ تعالیٰ مرضیہ تقدیر (چار شمارے) سرستہ خلوف
سرخ بیشی تقدیر (دو شمارے) کلام فیما بعد القدری (دو شمارے) الگمل سلام (دو شمارے)
دُو دُو دُو لام (آٹھ شمارے) وارثیں کی نعمت جس قیاد بلوی کی نعمت -

آناد بیکاری کی نعمت (دو شمارے) اقبال کی نعمت رسیلین نامی رسالت (پانچ شمارے)
فریضہ سماں پر کی نعمت فیضان نعمتی کس بیتیہ بیانات آزاد است نیلم
سلامیے کوادر میڈیا تدبیر (دو شمارے) علی بابیں دیوبندی حضرت علیہ السلام کا پیغم
جیاتی قیمتیں ہر یک ان کی ایست (پن شمارے) سفر سعادت مسئلہ محبت (دو شمارے)
نعمت کے سلسلیں - ○ ہر شوال حضور نبی مصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگفتار کشش
اوہ کمی بہتر بہتر کی خوشی پر کوئی شکار کا انتداب نہیں

جنوری ۱۹۸۸ء سے ہر ماہ پابندی وقت کے ماتحت شائع ہوتا ہے
انٹ میچ چار رنگا دیوار قریب سرور ق۔ عدنی طباعت

۱۲ صفحات قیمت ۱۵ روپے سالانہ ۱۴۰ روپے

اظہر محمد و مسیح ہمارا نعمت ظہیر نیشنل پیشوار اکاکالونی ملتان ۹۰
فون ۰۳۶۳۶۸۲ ۰۰۰ (لہور) ۵۳۵ (لکھنؤ) (لکھنؤ)